

اس دور کے تمام علمائے اہلسنت اور خانقاہوں کا اتفاق ہے کہ سیدنا سرکار علیہ السلام حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی قدس سرہ کا دنیاے سنیت پر احسان عظیم ہے کہ آج سادات کا احترام، علماء کی عظمت، خانقاہوں کا تقدس آپ کی ذات والا صفات کی خدمت دین و سنیت کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارے دلوں میں جو عشق رسول کی شمع فروزاں ہے وہ آپ ہی کی ذات پاک کا سانس ہے۔ آج جو ہم بد مذہبوں سے دور و نفور ہیں وہ آپ ہی کے فتاویٰ کا اثر ہے۔ اسی سے آج کے ہر مومن چھوٹی خانقاہ کے سجادہ نشین ہوں یا سادات کرام یا پھر علمائے اہلسنت بلکہ اکثر دین داروں اپنے گھر سے کسی نہ کسی فرد کو عرس رضوی میں حاضری کے لیے بھیجتے ہیں۔ اس لیے کہ آج سنیت کی جو بہاریں نظر آ رہی ہیں وہ احسان ہے امام اہلسنت کا۔ لہذا ہم اپنے خاندان کے کسی ایک فرد کو عرس رضوی ۲۵ صفر میں حاضری کے لیے بھیجیں۔ اور اس سال تو علیہ السلام کا ہر سال مبارک ہے۔ لہذا آپ خود بھی اس عرس میں شرکت فرمائیں اور ہر سنی کو اس عرس میں شرکت کی دعوت دیں اور ہو سکے تو ساتھ لے کر جائیں۔

ابن تمام شرکائے عرس رضوی کو مبارک باد پیش کرتا ہوں اور عرض گزار ہوں کہ آپ بارگاہ علیہ السلام و حضور مفتی اعظم قدس سرہا میں اپنے لیے اور ہمارے لیے عشق رسول اور پابندی شرع کی بھیک مانگیں۔

محمد عظیم قادری رضوی ممبئی

الاستیلا

از

آنحضرت امام احمد رضا قادری برکاتی قدس سرہ

تاجیہ و تاجیہ قادریہ

تھانہ بیہون

مکتبہ اہلسنت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
بِحَمْدِہِ تَعَالٰی

تین سو ساٹھ (۳۶۰) شعر کا مبارک قصیدہ اردو زبان سلیس بیان جس میں وہابیہ و دیوبندیہ کے
دوستوں (۲۳۰) اقوال کفر و ضلال کا واضح تبیان

از افادات عالیہ

علیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت مجدد اعظم دین و ملت
حضور پر نور مولانا شاہ امام احمد رضا قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

مسمیٰ بنام تاریخی

الاستمداد علیٰ اجیال الارتداد

۱۳

۵

۳۷

مع شرح ملقب بلقب تاریخی

کشف ضلال دیوبند

۱۳

۵

۳۷

از

تاجدار اہلسنت حضور مفتی اعظم حضرت علامہ شاہ محمد مصطفیٰ رضا قادری برکاتی نوری قدس سرہ

جس میں وہابیہ و دیوبندیہ کی کتابوں سے بحوالہ صفحہ ان اقوال کا پتہ ہے
بغور دیکھنا اور انصاف شرط ہے ورنہ اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔

ناشر: مدرسہ قادریہ ۵۱/۵۷ رڈ و نیا ڈاسٹریٹ، دوسرا منزلہ، مقابل رضا اکیڈمی، ممبئی ۹

نام کتاب الاستمداد علی اجبال الارتداد

۱۳ ۳۷

مصنف حضور علی حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی قدس سرہ

شرح کشف ضلال دیوبند

۱۳ ۳۷

شارح حضور مفتی اعظم حضرت علامہ شاہ محمد مصطفیٰ رضا قادری برکاتی نوری قدس سرہ

صحیح مولانا ابوسرور محمد اسلم رضا مصباحی کٹیہاری

طباعت بارونگر بموقع عرس قادری صاحب علیہ الرحمہ، ممبئی

سن طباعت ذی القعدہ ۱۴۳۱ھ / اکتوبر ۲۰۱۰ء

طابع رضا آفسیٹ، ممبئی ۳ فون : ۲۳۳۵۶۳۱۳

ناشر مدرسہ قادریہ، ۵۱/۵۷ رڈ وٹاڈ اسٹریٹ، دوسرا منزلہ، مقابلہ رضا اکیڈمی، ممبئی ۹

ہدیہ دعائے خیر

بفیض روحانی

تاجدار اہلسنت حضور مفتی اعظم

حضرت علامہ مفتی آل الرحمن

ابوالبرکات محی الدین جیلانی

محمد مصطفیٰ رضا قادری برکاتی

نوری قدس سرہ

بنظر کرم

آبروے سنیت قاضی القضاة

حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ

مفتی محمد اختر رضا قادری ازہری

دامت برکاتہم العالیہ

بظل روحانی

پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت

خلیفہ حضور مفتی اعظم و حضور

مجاہد ملت قدس سرہما حضرت

مولانا سید عبد العظیم صاحب

قادری علیہ الرحمہ

عرف قادری صاحب

توجہ طلب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ وَالِیْهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ
حضرت مولانا سید عبدالعلیم صاحب قادری عرف قادری صاحب علیہ الرحمہ کے کچھ متعلقین نے
الاستمداد علی اجیال الارتداد کی طباعت کا پروگرام بنایا اور کمپوزنگ کے بعد تصحیح کا کام
ناجیز کے سپرد کیا۔ تصحیح کے لیے جو نسخہ دیا گیا وہ زیروکس کا پی تھا جس کے حروف واضح نہ تھے نہایت
دھندلے تھے جن کی وجہ سے تصحیح میں بہت دشواری ہو رہی تھی۔ پھر ایک دوسرے مطبوعہ نسخے کا
زیروکس لا کر دیا جو مذکورہ نسخے سے بھی زیادہ دھندلا تھا اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا واضح حروف
والا معتبر نسخہ نہ ہونے کی وجہ سے تصحیح میں بہت زیادہ دقت و پریشانی ہو رہی تھی۔ کہیں سیاق و سباق
کی مدد سے الفاظ کی تعیین کرتا تھا تو کہیں اندازے کو ذخیل بناتا تھا یوں تصحیح کا کام زیادہ زیادہ وقت
میں تھوڑا تھوڑا ہوتا رہا۔ اس طرح کافی ایام گزر گئے اور کام اختتام کو پہنچنے کا نام نہ لیتا تھا۔ بھلا ہو
ناشر مسلک اعلیٰ حضرت عالی جناب الحاج محمد سعید نوری صاحب سکرٹری جنرل رضا اکیڈمی کا جو
ہمیشہ ہر جگہ یہ ذہن لیے رہتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت و حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کوئی
رسالہ جو اب تک چھپا نہیں یا چھپا تو ہے لیکن بہت پہلے کہ اب مارکیٹ میں دستیاب نہیں، مل
جائے اور اسے جلد سے جلد منظر عام پر لاؤں کہ گھوسی کے کسی صاحب کے پاس سے ایک چند
رسالوں کا مجموعہ لے کر آئے جس میں رسالہ ”الاستمداد“ بھی تھا جسے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔
لیکن اس کے حاشیے کے حروف بہت باریک تھے اور کچھ اوراق سے حاشیے کٹے ہوئے تھے جن کی
وجہ سے خاطر خواہ استفادہ تو نہ کر سکا لیکن تھوڑا کچھ فائدہ ضرور ہوا۔ مذکورہ تینوں نسخے سامنے رکھ

کر حتی الامکان تصحیح کی کوشش کی ہے۔ تاہم کوئی غلطی نظر آئے تو ضرور اصلاح و اطلاع فرمادیں۔
ضروری اطلاع میں نے کلام و حاشیہ اور حضور مفتی اعظم قدس سرہ کے مضمون میں کچھ بھی تحریف
نہیں کی ہے کیوں کہ حق مصنف میں سے ہے کہ ان کی تصنیف میں کوئی کمی بیشی اور تبدیلی نہ کی
جائے۔ البتہ ”نعت شریف، استمداد از شاہ رسالت اور ذکر اصحاب و دعائے احباب“ میں اور ان
کے حاشیے میں جن رقموں کے ذریعے نشاندہی کی گئی ہے ان رقموں کے کمپیوٹر میں نہ ہونے کی وجہ
سے ۱ ۲ ۳ وغیرہ کے عدد سے نشانی لگائی ہے اور بعض جگہ صرف اس طرح کی نشانی
سے کام لیا ہے۔ اور چون کہ کتاب قادری صاحب کے عرس کے موقع پر منظر عام پر لانی تھی اور
وقت کی قلت تھی بایں وجہ فی الوقت صرف حاشیہ تک کی تصحیح کر سکا اور تکمیلات کی تصحیح نہ کر سکا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اعظم ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل
ہمیں اپنوں میں شیر و شکر رکھے، غیروں کے لئے تیر و نشتر بنائے، دین و دنیا کی صحت و سلامتی عطا
فرمائے اور بدوین و بد مذہب سے دور و نفور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

یکے از گدایان اعلیٰ حضرت و مفتی اعظم

ابوسرور محمد اسلم رضا مصباحی کلثیہاری

۳۰ رذی القعدہ ۱۴۳۱ھ مطابق ۱۲ اکتوبر ۲۰۱۰ء

ارشاد گرامی

قاضی القضاة حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا قادری ازہری دامت برکاتہم العالیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ اَجْمَعِيْنَ

وَمَنْ اتَّبَعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

یہ جان کر بڑی مسرت ہوئی کہ عزیزم محمد اقبال، سلیم جہانی اور محمد یوسف، محمد سلیم، مقصود پٹیل و دیگر متوسلین معظم المحترم سید عبد العظیم صاحب قادری نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے قصیدہ مبارکہ الاستمداد علی اجیال الارتداد اس کی شرح کشف ضلال دیوبند مصنفہ حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ کی دیدہ زیب طباعت کا اہتمام کیا۔

یہ قصیدہ مبارکہ مح اس کی شرح کے زیر طباعت سے آراستہ مجھے پیش کیا گیا حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصیدہ نعت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورواہیت و دیوبندیت پر مشتمل ہے ساتھ ہی امام اہل سنت نے اپنے جلیل القدر خلفاء کا اس میں ذکر بھی فرمایا ہے۔ قصیدہ مبارکہ آسان اردو اور سلیس پیرایہ میں نظم ہوا ہے جس کو از بر کرنا آسان ہے۔ معلوم ہوا کہ جناب سید عبد العظیم صاحب قادری اپنے شاگردوں کو جب لکھنا پڑھنا سکھاتے تو ان سے قصیدہ مبارکہ کے اشعار لکھواتے اور ان کو یاد کراتے تھے اس طرح انہوں نے ابتداء سے نو خیز بچوں کی دینی تربیت کی بنیاد ڈالی جس کا اثر ان کے تربیت یافتہ نوجوانوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ اہل سنت کے بچوں اور بڑوں میں یہ قصیدہ عام ہو اور مدارس، مکاتب میں داخل نصاب کیا جائے۔ جن لوگوں نے اس مبارک قصیدہ کی طباعت میں کسی طرح تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان کو برکات دارین سے نوازے۔

ایں دعا از من واز جملہ جہاں آمین باد

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَتَسَلَّمَ

قلہ لظہر و اُمہ رِقْمہ نزیل بر مکان الحاج محمد توفیق رضوی نایگاؤں، ضلع ناندیڑ، مہاراشٹر
نصیحہ اشرفیہ الطاہرہ ازہری

کلمات ہادیہ

تاجدار اہلسنت حضور مفتی اعظم حضرت علامہ شاہ محمد مصطفیٰ رضا قادری برکاتی نوری قدس سرہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

مسلمانو! مسلمانو! اے مسلمان بھائیو! اے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے فدا یو!
اللہ تم پر رحمت کرے اور حق سننے ماننے، دوست دشمن میں فرق جاننے کی توفیق دے۔ آمین
یہ سلیس اردو زبان ہلکی بھر روشن بیان میں تین سو ساٹھ (۳۶۰) شعر کا ایک مبارک قصیدہ ہے۔ پینتیس (۳۵) میں نعت والا ہے باقی میں عموماً وہابیہ اور خصوصاً دیوبندیہ کے دو سوتیں (۲۳۰) اقوال کفر و ضلال کا نمونہ ہے۔ حاشیہ پر ان کی چھپی ہوئی کتابوں سے بحوالہ صفحہ عبارات نقل کر دی ہیں۔ عام بھائیوں پر آسانی کے لئے فارسی عبارتیں ترجمہ سے لکھی ہیں جس کا جی چاہے ان کتابوں سے مطابق کر دیکھے۔ جو بیان طالب تفصیل ہے اس کے لیے آخر میں تکمیل ہے۔ آگے آپ کا ایمان آپ بتا دے گا کہ اللہ و رسول جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب میں جن کے یہ عقیدے یہ اقوال ہیں وہ اللہ و رسول جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن ہیں یا دوست، ان کے دلوں میں اسلام کا مغز ہے یا پوست۔ جو نہ دیکھے یا دیکھ کر انصاف نہ کرے اس کا حساب اللہ واحد قہار کے یہاں ہے۔ اور جو دیکھے اور اللہ و رسول جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت سامنے رکھ کر جانچے تو بجز اللہ تعالیٰ حق آفتاب سے زیادہ عیاں ہے۔ فضول قصوں، ناولوں کی نظمیں نثریں دیکھتے پڑھتے گھٹنے گزریں۔ یہ بھی ایک مزہ دار نظم ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخالفوں سے فیصلہ کن رزم ہے۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے زینت بزم ہے۔ قیامت قریب ہے۔ اللہ حبیب ہے۔ اس کا ثواب عظیم اور عذاب شدید ہے۔ دین

کے اللہ و رسول جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ کچھ حملے ہیں پھر ان کی کس بات کا اعتبار۔ وباللہ التوفیق۔

تنبیہ آج بفضلہ تعالیٰ کتاب مستطاب الکوکیۃ الشہابیہ کو پچیسواں سال ہے اور حسام الحرمین شریف کو بارہ (۱۲) سال ہوئے ان میں بھی وہابیہ کے اقوال کفر و ضلال دکھائے ہیں۔ کوکیۃ شہابیہ میں صرف ستر (۷۰) تھے اس قصیدہ مبارکہ نے دو سو تیس (۲۳۰) گنائے۔ ستر (۷۰) کا جواب تو بحمد اللہ تعالیٰ آج تک نہ ہو سکا یہ تو ان کے سہ چند سے بھی بیس (۲۰) زائد ہیں۔ فضل الہی سے امید کہ یہ دہن مخالفین میں تکنا پتھر دیں۔ پھر بھی اگر کوئی وہابی صاحب کچھ ہمت پر آئیں تو شرط مردانگی یہ ہے کہ پورے دو سو تیس (۲۳۰) کا جواب لائیں۔ بعض پر کچھ لب کشائی بعض کو پشت نمائی کا حاصل یہ ہوگا کہ جن کا جواب نہ دیا وہ تسلیم ہیں۔ ہمارا مطلب اس سے بھی حاصل اگر کسی شخص کو ہزار وجہ سے کافر یا بددین کہا جائے اور فرض کیجیے کہ وہ ان میں سے نو سو ننانوے (۹۹۹) کا جواب دے لے ایک رہ جائے تو کافر بددین ہونے کو ایک کیا کم ہے۔

اطلاع اقوال وہابیہ پر ہند سے یوں ہیں ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔

جھگڑا سمجھنا مسلمان کی شان سے بعید ہے۔ تنہا یا دو دو اطمینان سے انصاف ایمان سے دو تین بار سچے دل سے یا ایک ہی نگاہ دیکھ کر لیجیے مگر یوں کہ صاف بات میں نہ ایچ پیج کی حاجت نہ اللہ و رسول جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابل کسی کی رعایت۔ پھر باب توفیق کھلے گا تو آپ کا ایمان خود ہی فیصلہ کر لے گا ان اقوال کا کفر و ضلال ہونا خود ہی عیاں ہے۔ معہذا بعض کا اصل قصیدے بعض کا شرح میں اجمالی بیان ہے۔ اور تفصیل الکوکیۃ الشہابیہ و حسام الحرمین والا من والعلی وخالص الاعتقاد وغیرہا تصانیف حضرت مصنف مدظلہ میں نور فشاں ہے۔

مسلمانو! بد مذہبوں کو دیکھو ان کا بچہ بچہ اپنی گمراہیوں سے واقف ہوتا ہے۔ یہ قصیدہ ہم خرما و ہم ثواب ذوق و اجر دونوں کا عمدہ ذریعہ ہے۔ اہلسنت اپنے بچوں کو حفظ کرائیں، اپنے مدارس کے نصاب میں داخل فرمائیں کہ ان کے دلوں میں اسلام عزیز رہے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوست دشمن کی تمیز رہے۔

اطلاع ضروری وہابیہ عام طور پر اپنی یہ باتیں چھپاتے اور فرعی مسائل مجلس شریف، قیام، گیارہویں شریف، فاتحہ، تیجہ، دسواں، چالیسواں، عرس، یارسول اللہ، یا علی، یا غوث کہنا، مزارات پر غلاف ڈالنا، روشنی وغیرہ اور ان میں جو غیر مقلد ہیں وہ مقتدی کے فاتحہ نہ پڑھنے، جہرہ آمین، رفع یدین نہ کرنے، وتر کی تین، تراویح کی بیس (۲۰) رکعتیں ہونے وغیرہا میں چھیڑ کرتے اور بھولے مسلمان ان کے دھوکے میں آکر ان میں بحث کرنے لگتے ہیں۔ بھائیو! جو لوگ اللہ و رسول جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں ان کو کسی فرعی فقہی مسئلے میں بحث کا کیا حق۔ یہاں ایک بات ان کے جواب کو کافی ہے اور ایک اپنے سمجھنے کو۔ اول یہ کہ تم لوگ پہلے اللہ و رسول جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا ایمان تو ٹھیک کر لو۔ دوم یہ کہ ان مسائل میں مخالف وہ لوگ ہیں جن

مسلسل ہونے کے سبب پابندی صفحہ کا التزام نہ رکھا۔ یہی شمار اقوال ہے۔ آگے قصیدہ و شرح اور قبول و تاثیر کا مولیٰ عز و جل سے سوال ہے صدقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجاہت کا۔ امین۔ والحمد لله رب العلمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ و ابنہ و حزبہ اجمعین۔

فقیر مصطفیٰ رضا قادری نوری غفرلہ

ماہ ربیع الاول شریف ۱۳۳۷ھ ہجریہ قدسیہ علی صاحبہا والہ افضل الصلاۃ والتحیۃ امین والحمد للہ رب العالمین۔



بسم اللہ الرحمن الرحیم
بمجدہ تعالیٰ

تین سو ساٹھ (۳۶۰) شعر کا مبارک قصیدہ اردو زبان سلیس بیان جس میں وہابیہ و دیوبندیہ کے دوستوں (۲۳۰) اقوال کفر و ضلال کا واضح تبیان

از افادات عالیہ

علیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت مجدد اعظم دین و ملت
حضور پر نور مولانا شاہ امام احمد رضا قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

مسمیٰ بنام تاریخی

الاستمداد علیٰ اجیال الارتداد

۱۳

ھ

۳۷

مع شرح ملقب بلقب تاریخی

کشف ضلال دیوبند

۱۳

ھ

۳۷

از

تاجدار اہلسنت حضور مفتی اعظم حضرت علامہ شاہ محمد مصطفیٰ رضا قادری برکاتی نوری قدس سرہ

جس میں وہابیہ و دیوبندیہ کی کتابوں سے بحوالہ صفحہ ان اقوال کا پتہ ہے

بغور دیکھنا اور انصاف شرط ہے ورنہ اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ

والہ وصحبہ ومن والاہ واشد المقمت علی من ناواہ ۔

نعت انور سید اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں
ڈوبی ناویں لے تراتے یہ ہیں ہلتی نیویں جھماتے یہ ہیں
ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

ترجمہ : تمام خوبیاں اللہ کو اور سب سے افضل درود و سلام رسول اللہ پر اور ان کے آل و اصحاب پر اور ہر چاہنے والے پر اور اللہ کا سخت غضب ان کے مخالف پر۔

۱۔ اللہ عزوجل نے شعیا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو وحی بھیجی کہ ابن ابی حاتم و ابو نعیم نے وہب بن منبہ کی حدیث سے روایت کی اس سے ثابت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری نے گمراہی کو ہدایت، جہل کو علم، گناہی کو رُفعت، ناشناسائی کو ناموری، قلت کو کثرت، محتاجی کو دولت، نا اتفاقی کو محبت سے بدل دیا۔ نادیں کتنی ڈوبی تھیں اور کیسی تریں، نیویں اکھڑ چکی تھیں کیسی جمیں۔ واللہ الحمد حمداً کثیراً۔

۲۔ علامہ شامی تلمیذ امام جلال الملئہ والدین سیوطی رحمہما اللہ تعالیٰ نے ”سبل الہدی والرشاد“ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسمائے طیبہ میں لکھا ”شانی“ علامہ زرقانی نے شرح مواہب لدنیہ شریف میں اس کے معنی بتائے ای المبری من السقم والالم والكاشف عن الامۃ کل خطب بہم الم یعنی حضور مرض و تکلیف سے شفا دینے والے ہیں اور امت پر سے ہر مصیبت کو دور فرمانے والے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ نام مبارک دلائل الخیرات شریف میں بھی ہے۔ مطالع المسرات میں فرمایا فہو الشافی من الامراض حضور ہی تمام بیماریوں سے شفا دینے والے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن عظیم میں عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہے وَأَخِي الْمَوْتِي يَا ذَنْ اللّٰهِ ج اللہ کی اجازت سے میں مردے جلاتا ہوں۔ یہ چھوٹی نبضیں چلانے سے بدرجہا زائد ہے اور متعدد حدیثوں میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وارد بلکہ حضور کے غلاموں نے بار بار مردے جلائے۔ دیکھو ہجۃ الاسرار شریف وغیرہ کتب ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ۔

جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں
 قصر دنیٰ تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں
 اس کے نائب ان کے صاحب حق سے خلق ملاتے یہ ہیں
 شافع نافع رافع دافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں
 شافع امت نافع خلقت رافع رتبے بڑھاتے یہ ہیں
 دافع یعنی حافظ و حامی دفع بلا سے فرماتے یہ ہیں
 فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں
 ان کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں
 اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں

سے الامن والعلیٰ میں اس کی حدیثیں دیکھو کہ ایک صحابی نے حضور میں عرض کی میں اس لئے سرکار میں
 حاضر ہوا کہ حضور میری سختیاں دور فرمادیں۔ کتب سابقہ میں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ کی نسبت ہے دفاع معضلات مشکلوں کے نہایت دفع کرنے والے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم نے حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش پر فرمایا یا حمزہ کاشف الکربات
 اے حمزہ اے دافع البلا۔ تو وہابیہ کا اسے شرک اور اس کے سبب درود تاج کو حرام بتانا خود ان کا شرک و
 ضلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سمیت احید لانی احید عن امتی
 فار جہنم میرا نام احید ہوا کہ میں اپنی امت سے آتش ووزخ کو دفع فرماتا ہوں۔ اس سے زیادہ دفع بلا
 اور کیا ہے۔ ولله الحمد۔

سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مردے جلانا ابھی گزرا اور دارمی کی صحیح حدیث میں ہے جاء کم
 رسول لیحیی قلوباً غلفاً ویفتح اعیناً عمیاً ویسمع اذا نأصماً ویقیم السنۃ عوجاً

تمہارے پاس یہ رسول تشریف لائے کہ غلاف چڑھے دلوں کو زندہ فرمادیں اور اندھی آنکھیں اکھیاری
 کر دیں اور بہرے کان کھول دیں اور ٹیڑھی زبانیں سیدھی کر دیں۔ قرآن عظیم میں ہے مَنْ أَحْيَا هَا
 فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ط جس نے ایک جان کو زندہ کیا گویا اس نے سب آدمیوں کو زندہ کیا۔
 ائمہ دین فرماتے ہیں عالم جس طرح اپنی ابتدا میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محتاج تھا کہ حضور نہ ہوتے
 تو کچھ نہ ہوتا۔ یوہیں اپنی بقا میں حضور کا محتاج ہے کہ حضور نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ اس کے نصوص کتاب
 سلطنة المصطفیٰ میں ہیں۔ انسان و حیوان کی زندگی کھیتی سے ہے کھیتی کی زندگی مینہ سے۔ عام
 مخلوق کی زندگی پانی سے۔ اور ان سب کی اور تمام جہان کی زندگی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ حضور
 کی زندگی ذکر الہی سے ذکر الہی کی زندگی حضور سے کہ حضور نے تشریف لا کر اسے احیا فرمایا۔ مطالع
 المسرات میں ہے ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روح الاکوان و حیاتها نبی صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم تمام جہان کی جان اور زندگی ہیں۔ اسی میں ہے قد اتفقت کلمة اولیاء اللہ علی انه
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر اللہ الممتد فی الارواح بنسیمها وتنسمها له حیاتها
 تمام اولیاء کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے وہ راز ہیں جو سب روحوں میں پھیلا ہوا ہے
 انہیں کی خوشبو سونگھ کر سب روہیں جیتی ہیں۔

ان کا حکم جہاں میں نافذ قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں
قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں

۱۰ مواہب شریف میں ہے ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خزائنہ السر وموضع نفوذ الامر فلا ینفذ امر الا منه ولا ینقل خیر الا عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خزائنہ راز الہی وجائے نفاذ امر ہیں کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے اور کوئی نعمت کسی کو نہیں ملتی مگر حضور کی سرکار سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدارج شریف میں ہے ”معلوم شد کہ تصرف وے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتصرف الہی جل جلالہ وعم نوالہ زمین وآسمان راشا مل ست“۔ اسی میں ہے ”روز روز اوست و حکم حکم او بحکم رب العظیم“۔ نسیم الریاض شرح شفاء امام قاضی عیاض میں ہے انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا حاکم سواہ فہو حاکم غیر محکوم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا مخلوق میں کسی کا حکم نہیں حضور حاکم کل ہیں اور جہاں بھر میں کسی کے محکوم نہیں۔

۱۱ مواہب لدنیہ و منہ محمدیہ میں ہے ۔

اذا رام امر الا یكون خلافه

ولیس لذاک الامر فی الکنون صارف

حضور جب کوئی بات چاہتے ہیں وہی ہوتی ہے اس کا خلاف نہیں ہوتا اور حضور کے چاہے کا جہاں میں کوئی پھیرنے والا نہیں۔ یہی خاص رنگ کن ہے۔ صحیح بخاری میں ہے ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور سے عرض کرتی ہیں اری ربک یسارع فی ہواک میں حضور کے رب کو دیکھتی ہوں کہ حضور کی خواہش میں جلدی وشتابی کرتا ہے۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں اولیاء میں ایک مرتبہ اصحاب تکوین کا ہے کہ جو چیز جس وقت چاہتے ہیں فوراً موجود ہو جاتی ہے جسے کن کہا وہی ہو گیا۔ مطالع المسرات میں ہے قال الشیخ ابو محمد عبد الرحمن کل اسم من اسماء اللہ تعالیٰ فعال فی الکنون مؤثر فیہ بما یناسب معناه وللہ عباد اذا تحققوا باسمائہ تکونت لہم الاشیاء کما اخبر تعالیٰ عن نوح وعیسیٰ ونبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مما ورد قرانا

وسنة وهو جار فی اتباع الرسل ایضا مما لا یعد کثرة۔ امام ابو محمد عبد الرحمن نے فرمایا اللہ عزوجل کا ہر نام عالم میں اپنے معنی کے مناسب نہایت فعل کرنے والا ہے اور اللہ کے کچھ بندے ہیں کہ جب اسماء الہیہ کے ساتھ متحقق ہوتے ہیں اشیاء ان کے لیے تکون پاتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح وعیسیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خبر دی جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے۔ اور یہ رسولوں کے پیروؤں میں بھی اس قدر کثرت سے جاری ہے کہ گناہ نہ جائے۔ اسی میں امام ابو العباس احمد اقلیشی کی تفسیر سے ہے قال وہیب بن الورد وکان من الابدال لو قال بسم اللہ صادقا علی جبل لزال والیٰ لهذا اشار بعض اهل الاشارات فی قوله بسم اللہ منک بمنزلة کن منہ یعنی وہیب بن ورد قدس سرہ کہ ابدال سے تھے فرماتے اگر صدق والا پہاڑ پر بسم اللہ کہے پہاڑ ٹل جائے گا۔ اور اسی طرف بعض اولیاء کرام نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا کہ عارف کا بسم اللہ کہنا خالق کے کن فرمانے کی جگہ ہے۔ اسی میں ہے وعد الحاتمی من الکرامات اسماء التکوین اما بمعرفۃ الاسماء واما بمجرد الصدق لان بسم اللہ منک حینئذ بمنزلة کن منہ کذا اشار الیہ بعض العارفين من اهل التکوین وهو صحیح یعنی امام محی الملک والدین حاجی نے کرامات سے اشیاء موجود کر دینے کے ناموں کو شمار کیا خواہ یوں کہ وہ اسم معلوم ہو جس سے شے موجود ہو جاتی ہے اسے لیا اور معدوم شے موجود ہو گئی یا مجرد اپنے صدق سے کہ صادق کا بسم اللہ کہنا خالق کے کن فرمانے کی جگہ ہے۔ بعض اولیاء نے کہ خود اصحاب تکوین سے تھے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور یہ صحیح ہے۔

ان کے بے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل ۵ کہلاتے یہ ہیں
 اِنَّا عَطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے یہ ہیں
 رب ۹ ہے معطی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں
 ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی شادی رچاتے یہ ہیں

بلکہ ہم نے ساری کثرت تمہیں عطا فرمائی۔

بے بیہوشی و ابونعیم و حاکم و غیرہم کی احادیث میں ہے کہ تورات و انجیل دونوں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت ہے اعطی المفاتیح۔ سب کنجیاں انہیں عطا ہوئیں۔ الامن والعلیٰ میں بارہ حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ خزانوں کی کنجیاں زمین کی کنجیاں دنیا کی کنجیاں نصرت کی کنجیاں نفع کی کنجیاں جنت کی کنجیاں نار کی کنجیاں ہر شے کی کنجیاں حضور کو عطا ہوئیں۔ علامہ قاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات شریف میں نقل فرماتے ہیں کمل ما ظہر فی العالم فانما یعطیه سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الذی بیدہ المفاتیح فلا ینخرج من الخزانن الالہیۃ شیء الا علیٰ یدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو نعمت تمام عالم میں کہیں ظاہر ہوتی ہے وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی عطا فرماتے ہیں کہ انہیں کے ہاتھ سب کنجیاں ہیں تو اللہ کے خزانوں سے کوئی چیز نہیں نکلتی مگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر۔

بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر

جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

۵ شاہ عبدالعزیز صاحب تحفۃ اثنا عشریہ میں لکھتے ہیں اللہ عزوجل زبور شریف میں فرماتا ہے امتلاؤن الارض من تحمید احمد و تقدیسہ و ملک الارض و رقاب الامم۔ زمین بھر گئی احمد کی حمد اور احمد کی پاکی بولنے سے احمد ساری زمین اور تمام امتوں کی گردنوں کا مالک ہوا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام احمد و امام طحاوی کی حدیث ہے اشی مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور میں عرض کی یا مالک الناس و دیان العرب اے تمام آدمیوں کے مالک اور عرب کے جزا سزا دینے والے۔ حضور نے

ان کی فریاد رسی فرمائی۔ شفاء شریف میں ہے من لم یر نفسه فی ملکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم یذق حلاوة الایمان جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا مالک نہ جانے ایمان کی حلاوت نہ چکھے گا۔

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب

یعنی محبوب و محبت میں نہیں میرا تیرا

وہی نور حق وہی ظل رب ہے انہیں سے سب ہے انہیں کا سب

نہیں ان کی ملک میں آساں کہ زمیں نہیں کہ زماں نہیں

ہیچہ الاسرار شریف میں حضرت سیدی ابومدین شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ فرماتے ملک البدل من السماء الی الارض و ملک العارف من العرش الی الفرش آسمان سے زمین تک ابدال کی ملک ہے اور عارف کی ملک عرش سے فرش تک۔ غضب تو یہ کہ خود وہابیہ کے پیر برطانیہ اسٹیل دہلوی کی صراط مستقیم میں ہے کہ ”یہ بلند منصب والے تمام عالم میں تصرف کے مختار مطلق ہوتے ہیں اور انہیں یہ کہنا پہنچتا ہے کہ عرش سے فرش تک ہماری سلطنت ہے“۔ افرے شرک اکبر۔

۹ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے انما انا قاسم واللہ المعطی دینے والا اللہ ہے اور بانٹنے والا میں۔ علماء فرماتے ہیں کسی چیز کی تخصیص نہ فرمائی یعنی کوئی نعمت ہو اللہ ہی دیتا ہے اور حضور ہی کے ہاتھ سے ملتی ہے۔ مواہب شریف وغیرہ سے گزرا ہر نعمت حضور ہی سے ملتی ہے۔

اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بنا تے یہ ہیں
لاکھوں بلائیں کروروں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں

۱۰ قصیدہ بردہ شریف میں ہے۔

یا اکرم الخلق مالی من الود به
سواک عند حلول الحادث العمم

اے تمام مخلوق الہی سے زیادہ کریم میرا کوئی نہیں جس کی میں پناہ لوں عام حادثہ اترنے کے وقت۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے قصیدہ اطیب النغم میں ہے۔

اذا ما اتتنی ازمة مدلهمة
تحیط بنفسی من جمیع جوانبی
تطلبت هل من ناصر او مساعد
الوذ به من خوف سوء العواقب
فلست اری الا الحبيب محمدا
رسول اله الخلق جم المناقب
ومعتصم المكروب فی كل غمرة
ومتجع الغفران من كل تائب

جب مجھے سخت تاریک سخت پہنچتی ہے کہ ہر طرف سے میری جان کو گھیر لیتی ہے میں ڈھونڈتا ہوں کوئی یاری دینے والا یا مدد کرنے والا ہے میں جس کی پناہ لوں کہ بد انجامی کا خوف دور ہو جائے اس وقت کوئی نظر نہیں آتا مگر محمد پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول بہت فضیلتوں والے کہ ہر سختی میں مصیبت زدہ کے جاے پناہ ہیں جن کی بارگاہ سے ہر توبہ کرنے والا اپنی مغفرت طلب کرے۔ پھر لکھتے ہیں اس بیت میں اس آئیہ کریمہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اگر تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کریں اور اے محبوب تم ان کی بخشش چاہو تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

بندے کرتے ہیں کام غضب کے مژدہ رضا کا سناتے یہ ہیں
نزع روح ۱۱ میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں

۱۱ حضور تو حضور امام شہرانی میزان الشریحہ میں فرماتے ہیں ان ائمة الفقهاء والصوفیة کلهم یشفعون فی مقلدیہم ویلاحظون احدہم عند طلوع روحہ وعند سؤال منکر و نکیر لہ وعند النشر والحشر والحساب والمیزان والصراط ولا یغفلون عنہم فی موقف من المواقف بیشک سب پیشوا اولیاء و علماء اپنے اپنے پیروؤں کی شفاعت کرتے ہیں اور جب ان کے پیروں کی روح نکلتی ہے جب منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں جب اس کا حشر ہوتا ہے جب اس کا نامہ اعمال کھلتا ہے جب اس سے حساب لیا جاتا ہے جب اس کے عمل تلتے ہیں جب وہ صراط پر چلتا ہے ہر وقت ہر حال میں اس کی نگہبانی کرتے ہیں اصلاً کسی جگہ اس سے غافل نہیں ہوتے۔ نیز فرماتے ہیں جمیع الائمة المجتہدین یشفعون فی اتباعہم ویلاحظونہم فی شدائدہم فی الدنیا والبرزخ ویوم القیمة حتی یجاوزوا الصراط۔ تمام ائمہ مجتہدین اپنے پیروؤں کی شفاعت کرتے ہیں اور دنیا و قبر و حشر ہر جگہ سختیوں کے وقت ان کی نگاہ داشت فرماتے ہیں جب تک صراط سے پار نہ ہو جائیں (کہ اب سختیوں کا وقت جاتا رہا اور لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا زمانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ گیا۔ نہ انہیں کوئی خوف ہونہ کچھ غم۔ واللہ الحمد)۔ نیز فرماتے ہیں واذا کان مشائخ الصوفیة یلاحظون اتباعہم ومریدیہم فی جمیع الاحوال والشدائد فی الدنیا والاخرۃ فکیف بائمة المذاهب۔ جب اولیاء ہر ہول سختی کے وقت اپنے پیروؤں اور مریدوں کا دنیا و آخرت میں خیال رکھتے ہیں تو ائمہ مذاہب کا کیا کہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ نیز لوائح الانوار القدسیہ میں ہے کل من کان متعلقا بنبی اور رسول او ولی فلا بد ان یحضرہ ویأخذ بیدہ فی الشدائد۔ جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا ضرور ہے کہ وہ نبی و ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے اور اس کی دستگیری فرمائیں گے۔ سندیں یہاں کثیر و موثر اور ان میں سے بہت حیاۃ الموات و انوار الانتباہ و فتاویٰ افریقہ میں مذکور مگر کس کے لیے جو اہل ہدایت ہو۔ وَمَنْ لَّمْ یَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُورًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُورٍ ۝

مرقد میں بندوں کو تھپک کر
 باپ جہاں بیٹے سے بھاگے
 ماں جب اکلوتے کو چھوڑے
 سنکھوں بیکس رونے والے
 خود سجدے میں گر کر اپنی
 گنگوں بے گنگوں کا پردہ
 اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا
 ٹھنڈا ٹھنڈا بیٹھا بیٹھا
 سَلِم سَلِم کی ڈھارس سے
 جس کو کوئی نہ کھلوا سکتا
 جن کے چھپر تک نہیں ان کے
 ٹوپی جن کے نہ جوتی ان کو

کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ
 مرثدہ رضا کا سناتے یہ ہیں



استمداد از شاہ رسالت بر کبرائے کفر و ردت

مولیٰ دین مٹاتے یہ ہیں کفر اسلام میں لاتے یہ ہیں
 تیری شان گھٹاتے یہ ہیں رب کو عیب لگاتے یہ ہیں
 رب سے الجھیں نبی سے الجھیں کس ابلیس کے کاتے یہ ہیں
 بلکہ وہ کفر میں ان کا گرگا پھر مسلم کہلاتے یہ ہیں
 ابن عقبہ سے مسلم ہیں حاشا اس کو لجاتے یہ ہیں
 اس کے ظلموں کی حد تھی حرم پر شاہ حرم تک جاتے یہ ہیں
 کتنے مذہب ردت ٹھہرے فقہ و کلام میں آتے یہ ہیں

۱۔ بالکسر و تشدید وال یعنی باوصف ادعائے اسلام قول یا فعل کفر کا ارتکاب کرنا۔

۲۔ سرکار مدینہ طیبہ پر جو ناپاک لشکر یزید پلید نے بھیجا تھا اس کا خبیث افسر مسلم بن عقبہ تھا وہ ناپاکیاں وہاں کیں جن کے سنتے کلیجہ کا پنے۔ تین دن مسجد اقدس میں نماز نہ ہوئی منبر اطہر پر گھوڑوں کی لیدر اور پیشاب پڑے آخر بہت برے حالوں اپنے مقرر کو گیا۔

۳۔ حکم ارتداد فقہی و کلامی میں فرق ہے جس لفظ کے ظاہر معنی کفر ہوں تاویل کی گنجائش نہ رکھتا ہو یعنی اس کے لیے کوئی تاویل صحیح نہ ہو کہ تاویل فاسد کو یہ نہ کہیں گے کہ اس میں تاویل کی جگہ ہے فقہا اس پر تکفیر کرتے ہیں لیکن متکلمین کتنی ہی تاویل بعید ہو جب تک عرفاً حد امکان میں ہو اسے موجب احتیاط جانتے ہیں ہاں تاویل معذرت کہ حقیقتاً تاویل ہی نہیں ہوتی اسے کوئی نہ سنے گا اس پر تکفیر قطعی اجماعی ہے یہی وہ کافر ہے کہ اس کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ مصرع دوم میں انہیں قسموں کی طرف اشارہ ہے تاکہ معلوم ہو کہ شعر سرنامہ میں کفر و ردت دونوں صورتوں کو عام ہے کہ قصیدے میں دونوں قسم کے مرتدوں کا رد ہے۔ واللہ البہادی۔

کفر کے بچے کفر کے باوا کفر کے رشتے ناتے یہ ہیں
 سب سے مضرت تر ہیں یہ وہابی سنی بن کے رجھاتے یہ ہیں
 سنی و حنفی و چشتی بن بن کر بہکاتے یہ ہیں
 جتنے ضلال ہوئے ہیں اب تک ان بیہوں کے کھاتے یہ ہیں
 جو چھپر ابلیس نے چھائے سب کے بندھن باتے یہ ہیں
 حق سے جاہل شہ سے ذاہل کیسی مد کے ماتے یہ ہیں
 اپنی چلتی نور الہی جلتے مونھ سے بجھاتے یہ ہیں

پیارے دفع کر اعدا کیونکر
 تیرے ہوتے ساتے یہ ہیں



۳ کفر کے بچے وہ مذہب کہ خاص کفر سے پیدا ہوئے۔ یہ صورت التزام ہے۔ کفر کے باوا جس کا نتیجہ کفر ہے۔ یہ لزوم ہوا۔ کفر کے رشتے قریب بکفر۔ قسیدے میں تینوں قسموں پر رد ہے۔

اسلمعیل دہلوی اور سب وہابیہ اور سارے دیوبندی

شہ ۱ کو رسل کو ملک کو جو مانے اس کو خدا سے چھڑاتے یہ ہیں
 چھاچھ بنا کر پھینکی نبوت گھی توحید کا تاتے یہ ہیں
 پھر اس کلمہ کفر کی تہمت رب و رسل پہ اٹھاتے یہ ہیں
 شہ کو یہ رسل کو اہل خدا کو چوہڑے چمار سنا تے یہ ہیں

۱۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کا امام ہے جو نیت امام کی سوا اپنی پھر دیوبندیوں کے امام خاص گنگوہی صاحب کا فتاویٰ حصہ اول صفحہ ۶۳ و ۶۴ ”سوال تقویت الایمان میں کوئی مسئلہ قابل عمل نہیں یا کل صحیح ہیں۔ الجواب بندہ کے نزدیک سب مسائل اس کے صحیح ہیں۔“

۱۔ تقویت الایمان مطبع صدیقی دہلی ۱۲۷۰ھ صفحہ ۲۱ ”اللہ کے سوا کسی کو نہ مانے“۔ صفحہ ۸ ”اوروں کو ماننا محض جہت ہے“۔ صفحہ ۷ وغیرہ۔ اقول ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسولوں، فرشتوں کا ماننا جزو ایمان ہے اور ان کا نہ ماننا ایسا ہی کفر ہے جیسا اللہ عزوجل کو نہ ماننا۔ لیکن امام وہابیہ کے دھرم میں انہیں اور خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننا محض حرام اور ہر حرام سے بدتر ہے۔ (دیکھو تکمیل اول)

۲۔ صفحہ ۱۹ ”اللہ صاحب نے فرمایا کسی کو میرے سوانہ مانو“۔ اللہ تعالیٰ پر کفر کا افترا۔

۳۔ صفحہ ۱ ”جتنے پیغمبر آئے ہیں سوا اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے ہیں کہ اللہ کو مانے اور اس کے سوا کسی کو نہ مانے“۔ تمام انبیاء پر کفر کا افترا۔

۴۔ تقویت الایمان صفحہ ۱۱ پر یہ دعویٰ کر کے کہ کسی انبیاء اولیاء کی یہ شان نہیں جو کسی کو مصیبت کے وقت پکارے مشرک ہے۔ صفحہ ۲۲ پر اس کے ثبوت میں کہا ”ہمارا جب خالق اللہ ہے تو ہم کو چاہیے ہر کاموں پر اسی کو پکاریں اور کسی سے ہم کو کیا کام، جیسے جو ایک بادشاہ کا غلام ہو وہ اپنے کام کا علاقہ دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا کسی چوہڑے چمار کا تو کیا ذکر“۔

حق ۵ سے چھوٹا ان سے اعظم
 وہ سب رکھے چہار سے بدتر
 لا واللہ ۶ وہ شان خدا ہے
 رب کا مقابل سمجھے رسل کو
 ان کی عزت حق سے جدا ہے
 ان کا بے نام دھرا ناکارے
 ان کے ۷ موندھ میں خاک ہو کس کو
 پھر ۹ اس کفر کی تہمت شہ پر
 بیچ میں اور مناتے یہ ہیں
 ٹھا کر کس کو بناتے یہ ہیں
 ذرہ سے جس کو گراتے یہ ہیں
 اپنا شرک بھلاتے یہ ہیں
 دونوں کی تول کراتے یہ ہیں
 کفر سے کے کام تو آتے یہ ہیں
 مٹی میں مر کے ملاتے یہ ہیں
 رکھ کر خاک اڑاتے یہ ہیں

۵۔ تقویت الایمان صفحہ ۱۶ ”جس نے اللہ کا حق مخلوق کو دیا تو بڑے سے بڑے کا حق ذلیل سے ذلیل کو دیدیا جیسے بادشاہ کا تاج ایک چہار کے سر پر رکھ دیجیے اور یہ یقین جانے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چہار سے بھی ذلیل ہے۔“ اقول اللہ کو بڑے سے بڑا کہا اور تمام مخلوقات کو ذلیل سے ذلیل۔ تو کم سے کم بیچ میں ایک اور چاہیے جو اللہ سے چھوٹا اور مخلوقات سے بڑا ہو اس سے ذلیل اور ان سے معزز ہو۔ یہ کفر ہے۔ (دیکھو تکمیل دوم)

۶۔ تقویت الایمان صفحہ ۲۷ ”سب انبیاء اس کے روبرو ذرہ ناچیز سے کم تر ہیں۔“ یعنی چوہڑے چہار سے بھی بدتر۔ (ازالہ وہم کو تکمیل سوم ہے)

۷۔ تقویت الایمان صفحہ ۳۵ ”اللہ کے ہوتے ایسے عاجز لوگوں کو پکارنا کہ کچھ فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے محض بے انصافی ہے کہ ایسے شخص کا مرتبہ ایسے ناکارے لوگوں کو ثابت کیجیے۔“ (دیکھو تکمیل ۴)

۸۔ ہر شخص اپنے ہی کام کو کام سمجھتا ہے۔ وہابیہ کا کام کفر ہے۔ محبوبان خدا اس کام کے نہیں تو انہیں آپ ہی ناکارہ کہا چاہیں۔

۹ و ۱۰۔ تقویت الایمان صفحہ ۸۲ ”فرمایا (نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے) جو تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔“ کفر بکا اور یعنی کہہ کر حضور پر اس کا افترا۔

(دیکھو تکمیل ۵)

جیسے ۱۰ پدھان اور چودھری ایسی
 چھوٹے ۱۱ بڑے بھائی کا تفاوت
 صرف بڑے بھائی کے برابر
 چھوٹے نانا حسین و حسن کے
 حکم ادب میں چچا زہرا کے
 وہ جن پر ماں باپ تصدق
 طالبی سے عباسی تو نہیں۔ کیا
 شہ ۱۲ کی ثنا، مدح باہم سے
 فوق ۱۳ رسالت شہ میں نہیں کچھ
 شہ کی سیادت گاتے یہ ہیں
 اپنے میں شہ میں بتاتے یہ ہیں
 شہ کا وقار مناتے یہ ہیں
 پیش خود کہلاتے یہ ہیں
 قَاتَلَهُمْ بنے جاتے یہ ہیں
 بھائی ان کو بناتے یہ ہیں
 زیر ابولہب آتے یہ ہیں
 کم ہو یہ للچاتے یہ ہیں
 جملہ خصائص ڈھاتے یہ ہیں

اللہ تعالیٰ کے نام سے

۱۰۔ تقویت الایمان صفحہ ۸۵ و ۸۶ ”جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار اس طرح سے ہمارے پیغمبر سارے جہان کے سردار ہیں۔“ بادشاہ تو بادشاہ ایک کلکٹر کو کہو تو اس کی توہین ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدر ہے۔

۱۱۔ تقویت الایمان صفحہ ۸۱ ”ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے ہم چھوٹے۔“ صفحہ ۸۰ ”سو بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے۔“ کیسی کھلی توہین ہے۔ باپ کے برابر بھی نہ رکھا۔

۱۲۔ حضور کا کوئی حقیقی بھائی نہ تھا حضرت حمزہ نے اولاد ذکر نہ چھوڑی۔ وہابیہ و امام ابوہابیہ کا حضرت عباس یا ابوطالب کی اولاد سے بھی نہ ہونا ظاہر تو کیا ابولہب کے بیٹے بن کر چھوٹے بھائی بننے کی گستاخی کرتے ہیں۔

۱۳۔ تقویت الایمان صفحہ ۸۵ ”جو بشر کی سی تعریف ہو سو ہی کر و سواس میں بھی اختصار ہی کرو۔“

۱۴ تا ۱۶۔ تقویت الایمان صفحہ ۸۳ ”پیغمبر خدا نے فرمایا یہی کہو کہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول یعنی جو خوبیاں اور کمالات اللہ نے مجھے بخشے سب رسول کہہ دینے میں آجاتے ہیں۔“ یہ حضور کے سب

فضائل خاصہ سے کفر ہے۔ (دیکھو تکمیل ۶)

اسرا ۱۳ رویت ۱۵ ختم نبوت ۱۶ سب کو عدم میں سلاتے یہ ہیں
 ایک ۱۷ توشہ پر یہ تہمت پھر حکم ۱۸ میں حصر بڑھاتے یہ ہیں
 واقف ہیں ۱۹ احکام سے باقی سارے فضل گماتے یہ ہیں
 کل اعجاز ۲۰ تمام محاسن ۲۱ سب پر لا کھنچواتے یہ ہیں
 یہ بہتان ۲۲ بھی شہ پر رکھا کتنا حق کو ستاتے یہ ہیں
 یُوذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ دین کو کیا کلپاتے یہ ہیں
 ایسوں کو جو اَعَدَلَهُمْ ہے آج نہیں کل پاتے یہ ہیں
 معجزہ ۲۳ اُمیّت شہ سے پیر کا جہل ملاتے یہ ہیں

۱۷ "یعنی" کہہ کر اس کفر کا افترا بھی حضور پر رکھ دیا۔

۱۸ اقول حدیث میں اتنا تھا کہ اللہ کا بندہ و رسول کہو۔ ترجمہ وہ گڑھا کہ "یہی کہو" یہ حضور پر اور افترا اسی
 خباثت کے لیے ہے کہ حضور میں رسالت کے سوا کوئی خوبی نہیں۔

۱۹ تا ۲۱ تفویت الایمان صفحہ ۲۹ "ان میں بڑائی یہی ہے کہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں اور برے بھلے
 کاموں سے واقف ہیں"۔ اقول اس کفر نے معجزے درکنار رسالت بھی اڑا دی۔ (دیکھو تکمیل ۷)

۲۲ تفویت الایمان صفحہ ۸۹ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کفر کا افترا کہ "سب لوگوں سے اتنا
 زچھ کو یہی ہے کہ اللہ کے احکام سے میں واقف ہوں اور لوگ غافل"۔ اقول اب ہدایت بھی گئی نری
 احکام دانی رہ گئی۔ (دیکھو تکمیل ۸)

قرآن عظیم میں ہے بے شک جو اللہ و رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کی اور
 ان کے لئے ذلت دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

۲۳ صراط مستقیم اسماعیل دہلوی مطبع ضیائی ۱۲۸۵ھ دیا چہ میں اپنے پیر کو "وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم کی کمال مشابہت پر پیدا ہوئے لہذا ناخواندے رہے"۔ یہ گرا ہی ہے۔ (دیکھو تکمیل ۹)

شہ ۲۴ کے حکم پہ چلنے میں بھی شرک کی ہنڈی پٹاتے یہ ہیں
 ورد ۲۵ کلمہ طیب پر بھی شرک کا مونہ پھیلاتے یہ ہیں
 اتنا جلتے ہیں نام شہ سے کلمے سے کنیاتے یہ ہیں
 دم ۲۶ میں کروڑوں ہمسر شہ ہوں ایسی مشین دھراتے یہ ہیں
 مجزے ۲۷ سے بہترے جادو اکمل و اقویٰ گاتے یہ ہیں
 ساحر قادر ، لیکن شہ کو پتھر محض ۲۸ بناتے یہ ہیں

۲۴ تفویت الایمان صفحہ ۱۳ و ۱۴ "کھانے پینے پہننے میں اس کے حکم پر چلنا جس چیز کے برتنے کو فرمایا
 برتنا جو منع کیا اس سے دور رہنا اس قسم کی چیزیں اللہ نے اپنی تعظیم کے واسطے بتائی ہیں جو کسی انبیاء اولیا کی
 اس قسم کی تعظیم کرے شرک ہے"۔ یہ قرآن کا رد اور رسالت کا انکار ہے۔ (دیکھو تکمیل ۱۰)

۲۵ تفویت الایمان صفحہ ۴۹ "نام چپنا انہیں کاموں سے ہے کہ اللہ نے خاص اپنی تعظیم کے ٹھہرائے
 ہیں اور کسی سے یہ معاملہ کرنا شرک ہے"۔ اقول کلمہ طیبہ کے ورد میں حضور کا نام چپنا ہے لہذا اس کے
 نزدیک شرک۔ (دیکھو تکمیل ۱۱)

۲۶ تفویت الایمان صفحہ ۳۷ "ایک آن میں چاہے تو کروڑوں نبی محمد کی برابر پیدا کر ڈالے"۔ یہ
 صاف تو ہین و کلمہ کفر ہے۔ (دیکھو تکمیل ۱۲)

۲۷ اسماعیل دہلوی رسالہ منصب امامت صفحہ ۳۱ منقول فتاویٰ گنگوہی حصہ ۳ صفحہ ۲۳ "بہت چیزیں کہ مقبولوں
 کی معجزہ گئی جاتی ہیں ویسی بلکہ قوت و کمال میں ان سے بڑھ کر جادو گرا اور طلسمات والے کر سکتے ہیں"۔ (اس
 کفر کے رد کو تکمیل ۱۳ ہے) مسلمانو! کیا تمہارا یہی اعتقاد ہے کہ جادو گر معجزے سے بڑھ کر دکھا سکتے ہیں۔

۲۸ ایضاً صفحہ مذکورہ "معجزہ یوں ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ خود ایک تصرف عجیب کرتا ہے نہ یہ کہ معجزہ دکھانے
 کی قدرت نبی کو دے اور اسے اس کے اظہار کا حکم کرے"۔ صفحہ ۲۴ "جو یہ سمجھے کہ حق تعالیٰ نے انبیاء کو
 تصرف کی قدرت دی وہ بے شک کافر و مشرک ہے"۔ یہ صراحت قرآن عظیم کا انکار ہے۔ (اس کفر
 شرک کے رد کو تکمیل ۱۳)

شہ ۲۹ کی وجاہت شہ کی محبت ۲۰ زہر کہاں نہیں کھاتے یہ ہیں
اصل ۱۱ شفاعت شہ سے ہیں کافر نام کو لفظ دکھاتے یہ ہیں
اس میں ۳۲ بھی تخصیص ان کی نہیں کچھ مہمل گول گڑھاتے یہ ہیں
بٹی ۳۳ تک کے نہ کام آئیں گے بے قدری یہ مناتے یہ ہیں

۲۹ تفویت الایمان صفحہ ۳۷ ”امیر کی وجاہت کے سبب اس کی سفارش قبول کی اس قسم کی سفارش اللہ کی جناب میں ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی جو کسی نبی کو اس قسم کا شفیق سمجھے وہ اصل مشرک ہے۔“ (اس گمراہی کا رد تکمیل ۱۵) مسلمانو! کیا تم اپنے نبی کو اللہ کے یہاں اتنا وجاہت والا نہیں جانتے کہ ان کی وجاہت وجہ قبول شفاعت ہو سکے۔

۳۰ تفویت الایمان صفحہ ۳۸ ”محبت کے سبب سفارش قبول کر لی اس قسم کی شفاعت بھی اس دربار میں کسی طرح ممکن نہیں جو کسی کو اس قسم کا شفیق سمجھے ویاہی مشرک ہے۔“ (اس ضلالت کا رد تکمیل ۱۶) مسلمانو! کیا تمہارے نبی اللہ کے محبوب نہیں کیا ان کی محبوبیت وجہ قبول شفاعت نہیں۔
۳۱ اس کے بیان کو تکمیل ۱۷۔

۳۲ تفویت الایمان صفحہ ۳۹ و ۴۰ ”جس کو چاہے گا اپنے حکم سے شفیق بنا دے گا۔“ ہمارے ایمان میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کے لیے متعین ہیں۔ انہیں کو چاہا اور انہیں کو چاہے گا اور سب نفسی نفسی کہیں گے اور یہ امتی امتی۔ (دیکھو تکمیل ۱۸)

۳۳ تفویت الایمان صفحہ ۴۶ ”اے فاطمہ بچا تو اپنی جان کو آگ سے کام نہ آؤں گا میں تیرے اللہ کے ہاں کچھ پیغمبر نے سب کو اپنی بیٹی تک کھول کر سنا دیا کہ اللہ کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔“ صفحہ ۳۴ ”میں آپ ہی کو ڈرتا ہوں دوسرے کو کیا بچا سکوں۔“ مسلمانو! کیا تمہارا بھی یہی اعتقاد ہے کہ حضور قیامت میں اپنی صاحبزادی کو بھی نہیں بچا سکتے۔ وہ آپ ہی کو ڈر رہے ہیں اور کو کیا بچا سکیں۔ (باقی تکمیل ۱۹)

معنی ۱ رب سے نہ ہو سکتے کو کیا معنی پہناتے یہ ہیں
ان کے کام نہ آئیں گے بے شک جب تو جہنم جاتے یہ ہیں
جگ بیتی سے کیا مطلب ہے اپنی بیتی سنا تے یہ ہیں
سب کے برابر عاجز ۳۴ و ناداں ۳۵ کار جہاں میں بتاتے یہ ہیں
جن کا چاہا ۳۶ خدا کا چاہا ان کا چاہا مٹاتے یہ ہیں
نائب اکبر قادر کل کو پتھر سے کا ٹھہراتے یہ ہیں

۱۔ اقول حدیث میں نفی اغنا تھی اغنا بے پرواہ کر دینا اسے اصلاً کام نہ آنا بنالیا۔

۲۔ کہ حدیث صحیح متواتر کے حکم سے منکر شفاعت شفاعت سے محروم ہے۔

۳۴ تفویت الایمان صفحہ ۳۰ ”ان باتوں میں سب بندے بڑے اور چھوٹے برابر ہیں عاجز اور بے اختیار۔“ نعت شریف کی شرح میں اقوال ائمہ گزرے دیکھو مسلمانوں کا کیا اعتقاد ہے اور اس کا کیا۔ (اور دیکھو تکمیل ۲۰)

۳۵ تفویت الایمان صفحہ ۳۰ ”ان باتوں میں سب بندے بڑے ہوں یا چھوٹے یکساں بے خبر ہیں اور نادان۔“ مسلمانو! کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہر جاہل کافر کو برابر کے نادان کہنا مسلمان کا کام ہے۔ (اور دیکھو تکمیل ۲۱)

۳۶ تفویت الایمان صفحہ ۵۲ ”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔“ صفحہ ۳۵ ”کسی کام میں نہ بالفعل ان کو دخل ہے نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں کچھ فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ناکارے۔“ یہ نہ صرف حضور بلکہ اللہ کی بھی تو ہیں ہے۔ (دیکھو تکمیل ۲۲)

۳۷ تفویت الایمان صفحہ ۴۹ پر اللہ تعالیٰ کا حق بتایا ”نفع نقصان کی امید اسی سے رکھنا چاہیے یہ معاملہ اور سے کرنا شرک ہے۔“ اقول پتھر سے بھی نفع کی امید نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تیمم کے کام آئے گا، نیو میں مضبوطی دے گا، سر پر گرا تو دو کر دے گا۔ انبیاء اولیاء پتھر سے بھی گئے گزرے۔ (اور دیکھو تکمیل ۲۳)

پتھر ۳۸ سے بھی بدتر لاشے محض پہ ٹھیکا کھاتے یہ ہیں
 کیا ۳۹ ہر بار نبی و ولی سے شیطان بھوت ملاتے یہ ہیں
 جو آیات میں بتوں میں ہیں ان کو محبوبوں پہ جماتے یہ ہیں
 ان کو نبی، بت، بھوت ہیں یکساں یہ توحید سو جھاتے یہ ہیں
 شان ۴۰ جلال حبیب حق کو سلب حواس بناتے یہ ہیں
 حمد ۴۱ کرے حق مدح نبی سے قدح سے قدر بڑھاتے یہ ہیں
 اتنی ہی شان خدا بڑھتی ہے جتنا نبی کو گراتے یہ ہیں
 رب ۴۲ دیتا ہے رسل کو تسلط بے قابو ٹھہراتے یہ ہیں

۳۸ تقویت الایمان صفحہ ۷۷ ”رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا“۔ (اس گستاخی کے رد میں تکمیل ۲۳ ہے)

۳۹ یہ ساری کتاب میں اہلی گہلی ہے حکم لگانے میں نبی، ولی و شیطان، پری، بھوت سب کو ملاتا ہے۔ عبارتیں تکمیل ۲۵ میں دیکھو۔

۴۰ اس کے بیان کو تکمیل ۲۶ ہے۔

۴۱ تقویت الایمان صفحہ ۷۵ ”مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے“۔ (دیکھو تکمیل ۲۷)

۴۲ قرآن کریم اول تا آخر تلاوت کیجیے اور ساری تقویت الایمان دیکھیے کھل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی مدح سے اپنی حمد فرماتا ہے اور یہ محبوبوں کی مذمت کو خدا کی تعریف ٹھہراتا ہے۔ (اس کا بیان تکمیل ۲۸ میں ہے)

۴۳ تقویت الایمان صفحہ ۱۰ ”کسی کو کسی کے قابو میں نہیں دیتا“۔ اقول یہ اللہ پر کذب کے علاوہ آیتوں کی تکذیب ہے۔ (دیکھو تکمیل ۲۹)

شہ ۴۴ کے حضور قیام ادب کو شرک بھون میں بٹھاتے یہ ہیں
 طیبہ ۴۵ کے جنگل کے ادب پر کیا زنجیریں تڑاتے یہ ہیں
 خود ۴۶ فرمان رسول اللہ پر حکم شرک چڑھاتے یہ ہیں
 اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ دیکھو کہاں چھلکاتے یہ ہیں
 ان کی بات تو وحی خدا ہے کس پر شرک جھکاتے یہ ہیں
 سن ۴۷ کے تبرک آب مدینہ شرک میں ڈوبے جاتے یہ ہیں

۴۴ تقویت الایمان صفحہ ۱۲ ”جو پیغمبر کو سجدہ کرے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو اس پر شرک ثابت ہے“۔ صفحہ ۵۴ ”کسی کی محض تعظیم کے واسطے اس کے روبرو ادب سے کھڑے رہنا انہیں کاموں سے ہے کہ اللہ نے اپنی تعظیم کے لیے ٹھہرائے ہیں“۔ یہ اللہ پر افترا ہے۔ (دیکھو تکمیل ۳۰)

۴۵ تقویت الایمان صفحہ ۱۲ ”جو وہاں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے اس پر شرک ثابت ہے“۔ مشرک ہر ایک کو مشرک جانتا ہے۔ مسلمان کے دل سے پوچھے کہ اس پاک مبارک جنگل کا ادب کیسا ہے۔

۴۶ تقویت الایمان صفحہ ۵۰ ”اس کے جنگل کا ادب کرنا وہاں شکار نہ کرنا درخت نہ کاٹنا گھاس نہ اکھاڑنا اور اس قسم کے کام کرنے اور ان سے کچھ دین و دنیا کے فائدہ کی توقع رکھنی یہ سب شرک کی باتیں ہیں“۔ یہاں چھانٹ کر اس مقدس جنگل کے ان ادبوں کو شرک کہا جو بالتصريح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ (دیکھو تکمیل ۳۱) اقول اور جب تیرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سے کسی فائدے کی امید رکھنے والا مشرک ہے پھر تعظیم مدینہ سے امید کا کیا ذکر۔

۴۷ تقویت الایمان صفحہ ۱۲ ”اس کے کونوں کے پانی کو تبرک سمجھ کر پینا بدن پر ڈالنا آپس میں بائٹنا تا بیوں کے واسطے لے جانا یہ کام اللہ نے اپنی عبادت کے واسطے بتائے ہیں جو کسی پیغمبر کو کرے اس پر شرک ثابت ہے“۔ اللہ پر افترا کیا اور سلف سے اب تک کے تمام مسلمانوں کو مشرک کہا۔ (دیکھو تکمیل ۳۲)

ان ۴۸ کو سفر طیبہ کا ستر ہے اس پر ادب کیا گاتے یہ ہیں
 پھلڑ ۴۹ پھلڑو ورنہ مشرک کیا تہذیب جگاتے یہ ہیں
 یہ ہے رسول اللہ کی عزت پھر اسلام رکھاتے یہ ہیں
 شہ ۵۰ کا خیال نماز میں آنا درجوں خر سے گراتے یہ ہیں
 لعنت حق ہو لعن رسل ہو کیسی رینک سنا تے یہ ہیں
 سورہ فاتحہ ۵۱ اور تشہد ۵۲ شرک اندھن میں دھنساتے یہ ہیں
 بیل گدھے کی یاد میں ڈوبیں اس کو سہل بتاتے یہ ہیں

۴۸ تقویت الایمان صفحہ ۱۲ ”جو کسی پیغمبر یا بھوت کی قبر یا مکان میں دور سے قصد کر کے جاوے اس پر شرک ثابت ہے۔“ صحابہ سے اب تک کے مسلمان مشرک کر دیے غضب یہ کہ گنگوہی صاحب بھاری مشرک ٹھہرا دیے۔ (دیکھو تکمیل ۳۳)

۴۹ تقویت الایمان صفحہ ۱۲ ”اس کے گھر دور دور سے قصد کر کے سفر کرنا اور رستے میں نامعقول باتیں کرنے سے بچنا کام عبادت کے ہیں جو کسی پیغمبر یا بھوت کو کرے اس پر شرک ثابت ہے۔“ اقول اولاً تمام صحابہ کرام و اولیا و علما و صلحاسب مشرک کر دیے کہ رستوں میں نامعقول باتوں سے بچتے تھے ثانیاً راہ مدینہ طیبہ میں نامعقول باتیں کرنا جزاء ایمان ہوا کہ نہ کرے تو مشرک۔ (باقی تکمیل ۳۴)

۵۰ اسلعل دہلوی کی صراط مستقیم صفحہ ۷۵ ”نماز میں پیر اور اس کے مانند اور بزرگوں کی طرف خیال لے جانا اگرچہ جناب رسالت مآب ہوں کتنے ہی درجوں اپنے بیل اور گدھے کے تصور میں ڈوب جانے سے بدتر ہے۔“ کون مسلمان ہے کہ اس قول کفر پر سنتے ہی لعنت نہ کرے۔ اس کے کفروں کا قاہر بیان کو کبہ شہابیہ میں صفحہ ۳۰ سے آخر صفحہ ۳۹ تک دیکھیے۔ (اور تکمیل ۳۵)

۵۱ و ۵۲ اقول ظاہر ہے کہ الحمد والتیام دونوں میں حضور کا خیال عظمت سے لانا ہے تو یہ شرک خود شریعت نے نماز میں واجب کیے۔ (دیکھو تکمیل ۳۶)

لیکن یاد رسول اللہ پر شرک کی نیو چناتے یہ ہیں
 خر سے تو ان کو خیر ہی پہنچی خار توشہ سے کھاتے یہ ہیں
 ختم جنہوں نے نبوت کردی جس پر دل ہمکاتے یہ ہیں
 یاد محمد - یاد خدا ہے کس کو خر سے گھٹاتے یہ ہیں
 ان کو گدھے کا ذکر ہی روزی جس کی شان بڑھاتے یہ ہیں
 ہم کو ذکر حبیب جسے یوں آگ سمجھ کے بجھاتے یہ ہیں
 غیر نبی کو وحی ۵۳ و عصمت ۵۴ مان کے نیو جھاتے یہ ہیں

۱۔ شفا شریف میں حدیث ہے رب عزوجل نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا جعلتک ذکرا من ذکوری فمن ذکوک فقد ذکونی میں نے تمہیں اپنی یاد سے ایک یاد بنایا تو جس نے تمہیں یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا۔

۵۳ صراط مستقیم صفحہ ۳۸ ”بعض اولیا کو احکام شرعیہ بے وساطت انبیا بھی پہنچتے ہیں احکام شرعیہ میں ان پر وحی آتی ہے وہ ایک طرح تقلید نبی سے آزاد اور احکام شرعیہ میں خود محقق ہوتے ہیں وہ انبیا کے ہم استاد ہیں تحقیقی علم وہی ہے جو انہیں اپنی وحی باطنی سے ملتا ہے وہ جو انبیا سے ملا تقلیدی ہے وہ علم میں انبیا کی برابر ہوتے ہیں۔“ ان کفریات پر ہر مسلمان نفریں کرے گا (۱) کیا غیر نبی پر احکام شرعیہ کی وحی آئے گی (۲) کیا وہ تقلید نبی سے آزاد ہو سکتا ہے (۳) کیا وہ نبی کے برابر ہو سکتا ہے (۴) کیا اس کا اپنا علم نبی کے علم سے زیادہ وثوق کا ہے۔ ان کا رد کو کبہ شہابیہ میں صفحہ ۲۱ سے صفحہ ۲۴ تک ملاحظہ ہو۔

۵۴ یہ نہیں کہا ”بالضرورة ان ولیوں کو ایک محافظت دیتے ہیں کہ محافظت انبیا کے مثل ہوتی ہے جس کا نام عصمت ہے۔“ جب انبیا کی طرح معصوم بھی ہوئے اور احکام شرعیہ کی وحی بھی آئی اور ان میں تقلید انبیا کے پابند بھی نہ ہوئے پھر نبی بلکہ مستقل رسول ہونے میں کیا رہ گیا یہ صریح کفر ہے۔ یہ ساری نیو نبی بننے کی تھی جس کا روشن بیان الکو کبہ شہابیہ میں دیکھیے۔

کا ہے کی نیو نبی بننے کی جس پر جان گنواتے یہ ہیں
 سلب قرآن ۵۵ جائز کہہ کر اس کو حدوث میں لاتے یہ ہیں
 قرآن ۵۶ وجہ ہدایت کب ہے محض الزام ہے گاتے یہ ہیں
 منصب ۵۷ فہم نکات قرآن ہر گیدی کو دلاتے یہ ہیں
 پھر ۵۸ اس کذب جلی کی تہمت خود قرآن پر اٹھاتے یہ ہیں
 خود ۵۹ کہے قرآن مَا يَعْقِلُهَا امی فہم بتاتے یہ ہیں

مجلس قرآن مجید

۵۵ اسماعیل دہلوی کی یکروزی مطب فاروقی دہلی صفحہ ۱۳۴ ”اتارنے کے بعد قرآن کا فنا کر دینا ممکن ہے۔“ اقول اولاً قدیم فتا نہیں ہو سکتا تو قرآن مجید حادث ہوا تو مخلوق ہوا اور صحابہ کرام اور ہمارے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا فتویٰ ہے کہ جو قرآن مجید کو مخلوق مانے کافر ہے۔ ثانیاً قرآن عظیم لازم ذات ہے اور لازم کی فنا لزوم کی فنا تو حاصل یہ ہوا کہ اللہ فنا ہو سکتا ہے۔

۵۶ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ اور تکمیل ۱۳ میں اسماعیل دہلوی کا قول درج ہوا کہ معجزہ صرف مخالفوں پر الزام ہوتا ہے نہ ہدایت۔ تو قرآن مجید ہدایت نہ رہا یہ کفر ہے۔ قال تعالیٰ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۵ قرآن ہدایت ہے ڈروالوں کو۔

۵۷ تفویت الایمان صفحہ ۳ ”سورہ بقرہ میں ہے اتاریں ہم نے تیری طرف باتیں کھلی یعنی ان کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں پیغمبر تو جاہلوں کے سمجھانے کو آئے تھے۔“

۵۸ صفحہ ”اللہ صاحب نے فرمایا کہ قرآن سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔“ یہ اللہ عزوجل پر افترا ہے۔

۵۹ صفحہ ”اللہ ورسول کے کلام سمجھنے کو بہت علم نہ چاہیے۔“ یہ قرآن مجید کی تکذیب ہے۔ قال تعالیٰ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَصْرِئِهَا لِلنَّاسِجِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۵ یہ کہاوتیں بیان تو ہم سب کے لیے کرتے ہیں اور انہیں سمجھتے نہیں مگر عالم۔

بے سمجھائے نہ سمجھے صحابہ اپنی ٹانگ اڑاتے یہ ہیں
 حق کے بیاں کی نبی کو حاجت پیٹ سے خواندے آتے یہ ہیں
 قرآن ہر شے کا ہے تیاں صفر نبی کو بناتے یہ ہیں
 معطلی علم ہے سرور عالم ان سے الگ کتراتے یہ ہیں
 حق نے يُعَلِّمُهُمْ فرمایا خود فہمید مناتے یہ ہیں
 فِى الْأُمِّيِّينَ یاد ہے ان کو وہ تعلیم بھلاتے یہ ہیں
 بعض کتاب پہ نام کو ایماں بعض سے کفر دکھاتے یہ ہیں
 قاصد سے اب کیا کام ان کو سلجھی پاتی پاتے یہ ہیں
 خواندے ہیں کیوں امی سے سیکھیں صاف ہے خط پڑھے جاتے یہ ہیں
 یہ ہے حدیث کی درگت جس کے دعوے پر اترتے یہ ہیں
 جب لا تو مقلد مجتہدیں کو نصرانیت اڑھاتے یہ ہیں

۶۰ صفحہ ”ہر خاص و عام کو چاہیے کہ اللہ ورسول کے کلام کو سمجھیں۔“ صفحہ ”جو کوئی بہت جاہل ہے اس کو اللہ ورسول کے کلام سمجھنے میں زیادہ رغبت چاہیے۔“ صفحہ ”جو کلام مولویوں کا اس کے موافق ہو سو قبول کیجیے اور جو موافق نہ ہو اس کی سند نہ پکڑیے۔“ یہاں ائمہ کی تقلید سے توڑا اور ہر جاہل گیدی کو خود قرآن و حدیث سے احکام سمجھنے پر ابھارا ہے۔ ان چاروں قولوں میں جو بے دینی پھیلائی ہے اس کے رد کو تکمیل ۳۷ دیکھیے۔

۶۱ تنویر العینین اسماعیل دہلوی ”ایک امام کی پیروی کہ اس کے قول کی سند پکڑے اگرچہ حدیث و کتاب سے خلاف پر ولیس ثابت ہوں اس قول کے موافق ان کی تاویل کرے یہ نصرانی ہونے کا میل اور شرک کا حصہ ہے تم ڈرتے نہیں کہ تم نے اماموں کو اللہ کا شریک کر دیا۔“ تو اہلسنت کے چاروں مذہب والے معاذ اللہ مشرک و نصرانی ہوئے۔ (دیکھو تکمیل ۳۸)

تذنی، مشکوٰۃ، بخاری، شافعی، حنفی، شریک، بدعت۔
 مجتہد العصر ان کا ہے جس کو بن سے پکڑ کر لاتے یہ ہیں
 ترجیحی، مسکاۃ اور بکھاری گھول کر اس کو پلاتے یہ ہیں
 ساپھی، پٹھی کے سکے کھوٹے جھنجھی ۱۲ اپنی بھناتے یہ ہیں
 سارے سرک، بدت پیسے بیٹھے اب کیا دیدہ لپاتے یہ ہیں
 الحاصل قرآن کو ہر دم جھلاتے مکرانے یہ ہیں
 روئے زمین ۱۳ پر کافر ہیں سب ایسی باؤ چلاتے یہ ہیں
 شہ کی امت کافر مانی آپ کہاں بچے جاتے یہ ہیں
 روئے زمین سے الگ کیا کوئی گوہ کا بھٹا بساتے یہ ہیں
 اپنی آگ میں جل گئے آپ ہی اچھی دیکھ گاتے یہ ہیں

مجلس باہر۔

۱۲ اس کے بیان کو تکمیل ۳۹ ہے۔

۱۳ تقویت الایمان صفحہ ۵۸ پر حدیث نقل کی کہ جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اتر کر دجال کو قتل فرمائیں گے اس کے بعد اللہ عزوجل ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا کہ روئے زمین پر جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہوگا اس کی روح قبض کر لے گی اور صفحہ ۵۶ پر حدیث کا ترجمہ کیا ”بھیجے گا اللہ ایک باؤ اچھی سوجان نکال لے گی جس کے دل میں ہوگا رائی کے دانے بھرا ایمان“۔ اور اس پر فائدہ یہ جڑ دیا صفحہ ۵۷ ”سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا“۔ یعنی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اتر آئے دجال قتل ہو گیا وہ ہوا چل گئی روئے زمین پر کوئی ادنیٰ اسلام والا نہ رہا نہ رہے کافر رہ گئے ایک کفر تو یہ ہوا کہ ساری امت کو کافر مانا پھر یہ اور اس کے پیرو کیا روئے زمین سے الگ کسی گوہ کے بھٹے میں بستے ہیں تو یہ خود اپنے اقرار سے کافر ہوا۔ باقی اس کفر کی بڑھتی بیل تکمیل ۴۰ میں دیکھیے۔

شرک ان کے شرک۔
 شرک کی ایسی تند چڑھی ہے شرک ہی شرک بلاتے یہ ہیں
 شرک کی تسبیح ان کا وظیفہ شرک ہی چپتے جپاتے یہ ہیں
 ساون کے اندھے کا ہر ہے شرک جو گاتے گواتے یہ ہیں
 شرک ملہاریں مل کر گائیں شرک میں چنری رنگاتے یہ ہیں
 شرک ہے ان کی بڑھتی دولت چھڑوں شرک لٹاتے یہ ہیں
 شاہ ۱۳ ملک ۶۵ جبریل ۶۶ و قرآن ۶۷ سب پر شرک گھماتے یہ ہیں
 تورنت ۶۸ وانجیل ۶۹ و زیور ۷۰ اب ان سے شرک جٹاتے یہ ہیں
 غیب پہ کشتی خضرائے و موسیٰ ۷۲ شرک بھنور میں پھنساتے یہ ہیں
 سجدۃ یعقوب ۷۳ و یوسف ۷۴ کو چاہ شرک جھنکاتے یہ ہیں
 اُبْرٰی الْأَكْمَه وَالْأَبْرَص ۷۵ پر سولی سے دھمکاتے یہ ہیں
 اُحْيِ الْمَوْتٰی ۷۶ سن کے تو مکر شرک گڑھے میں سماتے یہ ہیں
 نام پسر پر آدم ۷۷ و حوا ۷۸ دونوں کا دین کھپاتے یہ ہیں

۱۲ تا ۸ ے تقویت الایمانی دھرم پر ائمہ و اولیاء و صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کیا گنتی انبیاء و ملائکہ و جبریل حتیٰ کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہم و سلم یہاں تک کہ قرآن عظیم یعنی خود رب الغلمین عز جلالہ سب نے معاذ اللہ شرک کیے ہیں۔ ان کے کچھ بیان کو کتبہ شہابیہ میں اور بکثرت الامن والعلیٰ میں دیکھیے اور نمونے کے لیے تکمیل ۴۱۔



ایک ۷۹ بڑے کے بھی دادا نانا
 دادی نانی دونوں مسلمان
 اب جو حکم اولاد پر آیا
 اور اگر ان کو بھی شرک میں سائیں
 مرتد و مرتدہ کا تناح
 لاکھوں مسلمان کر دیے مشرک
 جیسی کرنی ویسی بھرنی
 شرک کے نیچے لٹاتے یہ ہیں
 کفر انہیں کب چپکاتے یہ ہیں
 پوچھو کیا فرماتے یہ ہیں
 جب کیا چاک سلاتے یہ ہیں
 رد ہے کدھر چکراتے یہ ہیں
 گھر کی خبر براتے یہ ہیں
 کاٹیں جیسی بواتے یہ ہیں

۷۹ تفویت الایمان صفحہ ۶۵ و ۶۶ ”کوئی نام رکھتا ہے علی بخش پیر بخش غلام محی الدین غلام معین الدین یہ جھوٹے مسلمان سچ شرک میں گرفتار ہیں۔“ صفحہ ۶۳ ”کوئی نام رکھتا ہے نبی بخش پیر بخش سیتلا بخش گنگا بخش سو یہ آپ ہی مردود ہو جاتے ہیں۔“ اب تذکرۃ الرشید صفحہ ۱۳ میں گنگوہی صاحب کا پدری نسب دیکھیے ”رشید احمد بن ہدایت احمد بن پیر بخش بن غلام حسن بن غلام علی۔“ نیز مادری دیکھیے ”رشید احمد بن کریم النساء بنت فرید بخش بن غلام قادر بن محمد صالح بن غلام محمد۔“ بھلا تفویت الایمانی دھرم پر پیر بخش کا پوتا فرید بخش کا نواسا کیونکر صحیح النسب ہو سکتا ہے۔ جس کی دادی نانی مسلمان اور دادا نانا بحکم تفویت الایمان مشرک مردود گنگا بخش سیتلا بخش کے جوڑ کے۔ اور غلاموں کی بھر مار علاوہ یعنی اوپر ہی سے ہوتی آئی ہے ع ایں خانہ تمام آفتاب ست۔ اور اگر رشیدی حضرات ان کی دادیوں نانیوں کو بھی مشرک مانیں یعنی ان کے دادا نانا دادیاں نانیاں سب مشرک و مشرک تھے اور مشرک و مشرک کا باہم نکاح صحیح تو یہ بھی بخیر ہے اصلی مشرک و مشرک کا نکاح صحیح ہے اور جو کلمہ گو ہو کر مشرک کرے مرتد ہے اور مرتد مرد ہو یا عورت دنیا میں جس سے اس کا نکاح ہوگا باطل محض ہوگا۔ دیکھو عالمگیری وغیرہ۔ اب گنگوہی صاحب کی وہ عبارت فتاویٰ حصہ اول صفحہ ۶۳ ”بندہ کے نزدیک سب مسائل اس کے صحیح ہیں۔“ یاد کر کے اور زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جناب موصوف اب خود اپنے منہ کیا ہوئے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

عبد عزیز ۸۰ و ولی اللہ ۸۱ کو
 شیخ ۸۲ مجدد صاحب پر تو
 آپ ۸۳ پڑھالیں باپ ۸۴ پڑھالیں
 حاجی امداد اللہ ۸۵ کو بھی
 تھانوی ۸۶ قاسم ۸۷ گنگوہی ۸۸ کو
 قَدْ یَصْذُقْ خود اور یہ تینوں
 شرک فقہی کفر کلامی
 چاہے ۸۹ تو حق عالم ہو پر اب تک
 اس کی ۹۰ صفات قدیمہ کو حادث

حضرت زکریاؑ

۸۰ تا ۸۸ تفویت الایمانی دھرم پر شاہ عبدالعزیز صاحب شاہ ولی اللہ صاحب حضرت شیخ مجدد الف ثانی جناب حاجی امداد اللہ صاحب معاذ اللہ سب کئے پکے مشرک تھے حتیٰ کہ اسی کے منہ اسمعیل خود مشرک اس کے پدر طریقت یعنی پیر مشرک۔ مزہ یہ ہے کہ نہ یہی بلکہ اسمعیلی فتوے سے گنگوہی صاحب نانوتوی صاحب تھانوی صاحب سب کٹر مشرک۔ ان کے قاہر بیان ہمارے رسائل اکمال الطامہ و کوکبہ شہابیہ و بذل الصفا وغیرہ میں ہیں۔ نمونے کو دیکھیے تکمیل ۴۲۔

۸۹ تفویت الایمان صفحہ ۲۳ ”غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہیے کر لیجیے یہ اللہ صاحب ہی کی شان ہے۔“ دیکھیے کتنا صاف صاف کہا کہ اللہ کوئی الحال علم غیب نہیں ہاں اختیار رکھتا ہے کہ جب چاہے معلوم کر لے۔ یہ اللہ عزوجل کو کیسی کھلی گالی دی والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

۹۰ اقول اولاً اسمعیل کا علم الہی میں عقیدہ ابھی گزرا کہ اختیار میں ہے اور ہر اختیاری مخلوق ثانیاً بلکہ وہ کہہ چکا کہ اللہ کو کل علم ابھی حاصل ہی نہ ہوا چاہے تو حاصل کر لے تو قطعاً حادث ہو اور ہر حادث مخلوق ثالثاً قرآن عظیم کو حادث و مخلوق ماننا نمبر ۵۵ میں گزرا رابعاً صدق و جملہ صفات الہیہ کو یہی دشنام نمبر ۱۰۹ میں دی جس کا بیان آتا ہے وباللہ التوفیق۔

سارا ۹۱ علم غیب الہی پانچ میں ختم کراتے یہ ہیں
 سمت ۹۲ و زمان ۹۳ و مکاں ۹۴ سے تنزیہ حق کی ضلال بتاتے یہ ہیں
 دیدار ۹۵ بے کیف پر ایماں کفروں کے ساتھ گناتے یہ ہیں
 ترک ۹۶ سزائے شرک پر اس کو بے غیرت ٹھہراتے یہ ہیں

۹۱ تقویت الایمان صفحہ ۳۲ ”جو کہے کہ پیغمبر خدا وہ پانچوں باتیں جانتے تھے یعنی سب غیب کی باتیں جانتے تھے“۔ دیکھو سارا غیب انہیں پانچ باتوں میں منحصر کر دیا (۱) قیامت کب آئے گی (۲) میث کب بر سے گا (۳) مادہ کے پیٹ میں کیا ہے (۴) کل کیا کرے گا (۵) کہاں مرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم غیب بس اتنا ہی ہوا ان کے سوا غیر متناہی علوم الہیہ کا انکار ہو گیا یہ کیسا کفر ہے۔

۹۲ تا ۹۵ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت اور زمانے اور مکان سے پاک ہے قیامت میں مسلمانوں کو اس کا دیدار ہوگا جو کیفیت و جہت و مقابلہ و مسافت سے پاک ہے۔ امام الوہاب نے ایضاً الحق میں ان سب ایمانی عقیدوں کو گمراہی بتایا اور مخلوق کو قدیم یا اللہ عزوجل کو معاذ اللہ بے اختیار ماننے کے کفروں کے ساتھ گنا۔ یہ کھلی ضلالتیں ہیں۔ ایضاً الحق مطب فاروقی دہلی صفحہ ۳۵ و ۳۶ ”اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان و جہت سے پاک بتانا اور بغیر جہت و مقابلہ کے اس کا دیدار ماننا اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے بطور بے اختیاری صادر جاننا اور عالم کو قدیم کہنا سب حقیقی بدعتوں کے قبیل سے ہے اگر اسے دینی عقیدہ جانے“۔

۹۶ تقویت الایمان صفحہ ۱۵ و ۱۶ ”ایک تفسیر میں اس ڈھب کی ہیں جن میں بغاوت نکلتی ہے جو بادشاہ ایسوں کو سزا دے اس کی بادشاہت میں قصور ہے عقلمند ایسے بادشاہوں کو بے غیرت کہتے ہیں سو مالک الملک کہ پرلے سرے کا زور رکھتا ہے اور وہی غیرت وہ مشرکوں سے کیونکر غفلت کرے گا اور کس طرح ان کی سزا دے گا“۔ یہ اللہ کو مجبور کرنا ہے۔ مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝ بے شک اللہ جو چاہے کرے لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ اس کے کسی فعل پر اعتراض نہیں۔

غیر کفر ۹۷ کی قطعی سزا بھی معتزلہ سی مناتے یہ ہیں
 قدر ۹۸ حکم نبی رکھنے کو حیلہ گر اس کو بناتے یہ ہیں
 مورچھل ۹۹ اس کی قبر پہ جھلتے نمکیرہ ۱۰۰ اتواتے یہ ہیں
 خاص ۱۰۱ انہیں ۱۰۲ اپنے لیے کرنے کی تہمت حق پر اٹھاتے یہ ہیں

۹۷ تقویت الایمان صفحہ ۱۵ ”شرک کی سزا مقرر ملے گی پھر اگر پرلے درجے کا شرک ہے جس سے کافر ہو جاتا ہے تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور جو اس سے درلے درجے کے شرک ہیں ان کی سزا جو مقرر ہے پاوے گا باقی گناہ کی سزائیں اللہ کی مرضی پر ہیں چاہے دے چاہے معاف کرے“۔ یہ ضلالت معتزلی ہے۔ اہلسنت کے ایمان میں صرف کفر کی سزا قطعی ہے باقی سب اس کی مرضی پر ہے۔

۹۸ تقویت الایمان صفحہ ۳۹ پر اللہ کے حضور شفاعت کے لیے وہ قیدیں کہ نمبر ۳۱ میں گزریں بڑھا کر کہا ”سو اس کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے دل میں اس پر ترس آتا ہے مگر آئین بادشاہت کا خیال کر کے بے سبب درگزر نہیں کرتا کہ کہیں لوگوں کے دلوں میں اس آئین کی قدر گھٹ نہ جائے سو کوئی امیر وزیر اس کی مرضی پا کر سفارش کرتا ہے اور بادشاہ ظاہر میں اس کی سفارش کا نام کر کے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی جناب میں اس قسم کی شفاعت ہو سکتی ہے جس نبی ولی کی شفاعت کا قرآن و حدیث میں مذکور ہے اس کے معنی یہی ہیں“۔ یہ تین بے ایمانیاں ہیں (۱) اللہ پر اعتراض ہو سکتا ہے (۲) اس سے بچنے کو حیلہ کرتا ہے (۳) اس کے قانون میں فَيَسْغُفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ نہیں، کہ جسے چاہے بخش دے۔ جب یہ خود اس قانون کریم میں موجود ہے تو سزا نہ دینے معاف فرمادینے میں کیا مخالفت قانون ظاہر ہوگی جس سے اس کی قدر دلوں سے گھٹ جائے گی جس سے بچنے کو یہ حیلہ گری کی جائے گی۔

۹۹ تا ۱۰۲ تقویت الایمان صفحہ ۱۰ ”اب یہ بات تحقیق کی چاہیے کہ اللہ صاحب نے کون کون سی چیزیں اپنے واسطے خاص کر رکھی ہیں کہ اس میں کسی کو شریک نہ کیا چاہیے“۔ پھر ان کی چار قسمیں کر کے تیسری میں لکھا ”یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بندوں کو بتائے ہیں پھر جو کوئی کسی کی قبر کو بوسہ دے مورچھل جھلے اس پر شمیانا کھڑا کرے اس پر شرک ثابت ہے اس کو شرک فی العبادۃ کہتے ہیں یعنی اللہ کی سی کسی کی تعظیم کرنی“۔ قبر کو مورچھل جھلنے اور اس پر شامیانا کھڑے کرنے کے لیے پہلے اپنے معبود کی کوئی قبر تجویز کر لی ہوتی پھر یہ کہ ان دونوں باتوں کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے کہ میری ہی قبر پر ایسا کرنا اور قبروں پر نہ کرنا یہ اللہ عزوجل پر دو افترا ہیں۔ (باقی بیان کو تکمیل ۴۳)

جواک ۱۰۳ پیڑ کے پتے گن دے اس کو خدائی تھماتے یہ ہیں
 حق ۱۰۴ سے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر پیر کو باتیں کراتے یہ ہیں
 یوں گھل مل کے کلام حقیقی ۱۰۵ یارانہ گنٹھواتے یہ ہیں
 لیکن ۱۰۶ شاہ ورسل کے حق میں قاہر محض بتاتے یہ ہیں

۱۰۳۔ تفویت الایمان صفحہ ۷۷ و ۷۸ ”جو اللہ کی شان ہے اور اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ملاوے گو کیسا ہی بڑا ہو اور کیسا ہی مقرب مثلاً کوئی کہے کہ فلاں درخت میں کتے پتے ہیں تو جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ ورسول ہی جانے کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے رسول کو کیا خبر۔ ایک پیڑ کے پتے جاننے پر خدائی رہ گئی۔ (باقی دیکھو تکمیل ۴۴)

۱۰۴ تا ۱۰۶ صراط مستقیم صفحہ ۱۷۵ اپنے پیر کی نسبت ”ایک دن اللہ نے ان کا سیدھا ہاتھ خاص اپنے دست قدرت میں لیا اور عالم قدس کی ایک بہت عجیب و عظیم چیز ان کے پیشکش کی اور فرمایا کہ تجھے یہ دی اور اور چیزیں بھی دوں گا۔“ اس کے لفظ یہ ہیں ”پیش روئے حضرت ایشاں کردہ۔“ پیشکش کرنا اور پیش روئے کردن کا حاصل ایک ہی ہے۔ صفحہ ۱۳ ”مکالمہ و مسامرہ بدست می آید۔“ اللہ سے کلام اور باہم داستان گوئی میسر ہوتی ہے۔ اللہ ان کے سامنے ادھر ادھر کی کہانیاں کہتا ہے اور یہ اللہ کے سامنے کہتے ہیں یوں رات کو آپس میں دل بہلاؤ ہوتا ہے۔ صفحہ ۱۵۴ ”کبھی کلام حقیقی بھی ہوتا ہے۔“ یہ خود کفر ہے کہ دعویٰ نبوت ہے۔ دیکھو کو کو کہ صفحہ ۱۷ و ۱۸۔ مسلمانو! انبیاء و مرسلین کے لیے تو وہ کہا تھا کہ خدا کے آگے ہمارے بھی ذلیل پھر اس کے پیر کی کیا گنتی کیا یہ بھنگی در بھنگی کے غلیظ سے بھی زیادہ ذلیل نہ ہوگا عجب کہ وہ شاہنشاہ متکبر غیر اس سے یوں مجلس گرم کرے۔ مسلمانو! پھر وہی خدا کہ ان کے پیر جی کے ساتھ جس کا یہ یارانہ یہ بے تکلفی کی ملاقات یہ مصافحے یہ چہ میگوئیاں ہیں اس کے یہاں رسولوں کی حالت دیکھیے تفویت الایمان صفحہ ۳۶ ”اس کے دربار میں ان کا تو یہ حال ہے کہ جب وہ کچھ حکم فرماتا ہے یہ سب رعب میں آکر بیجا ہوجاتے ہیں اور ادب و دہشت کے مارے دوسری بار اس بات کی تحقیق اس سے نہیں کر سکتے پھر بات الٹنے کا تو کیا ذکر اور کسی کی وکالت کی کیا طاقت۔“ یہ بھی آیات قرآن کی تکذیب ہے۔ (دیکھو تکمیل ۴۵)

کذب الہی ۱۰۷ ممکن کہہ کر دین و یقین سب ڈھاتے یہ ہیں
 کذب ۱۰۸ کا کیا غم ہاں کوئی کاذب سمجھے اس سے ڈراتے یہ ہیں
 ان کو بھلا بہلا کے ہو جھوٹا اس کا پاس دلاتے یہ ہیں
 قدرت رب سے ہی کذب بشر ہے طاقت جس کی رکھاتے یہ ہیں
 کذب خدا پر کون ہے قادر قدرت جس سے گھٹاتے یہ ہیں
 اوندھی عقل کی اوندھی بدھیا کس جنگل میں چراتے یہ ہیں

۱۰۷ اسلمعیل دہلوی کی یکروزی صفحہ ۱۴۵ ”ہم نہیں مانتے کہ اللہ کا جھوٹ بولنا محال ہو۔“ براہین قاطعہ گنگوہی طبع دوم صفحہ ۲ ”امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہ نکالا قدمائے اختلاف ہے۔“ مسلمانو! جب اللہ ہی کا جھوٹا ہونا ممکن ہوا پھر اس کی کون سی بات کا اعتبار رہا دین ایمان سب ہاتھ سے گیا۔ (دیکھو تکمیل ۴۶)

۱۰۸ اہل اسلام دلیل لائے تھے کہ اللہ عزوجل نے وَلَیْکِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِیْنَ ط فرمایا کہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے پچھلے اگر کوئی حضور کے مثل اور ہو تو حضور خاتم النبیین نہ ہوں اور اللہ کی بات معاذ اللہ جھوٹ ہو۔ امام وہابی نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ خدا کا جھوٹ کیا محال۔ ایک جواب یہ دیتا ہے یکروزی صفحہ ۱۴۴ ”ممکن ہے کہ یہ آیت لوگوں کو بھلا دی جائے تو اب اگر حضور کی مثل دوسرا ہو سکا تو بندوں کا کسی آیت کو جھوٹا کہنا لازم نہ آئے گا۔“ اقول دیکھو صاف کہا کہ آیت اگرچہ واقع میں جھوٹی پڑے مگر کوئی جھوٹی کہہ تو نہ سکے گا کہ بندوں کو پہلے ہی بھلا دی ہے جب یاد ہی نہیں تو کس کی تکذیب کریں غرض سارا ڈر بندوں کا ہے جب ان پر اندھیری ڈال دی پھر پیٹ بھر کر جھوٹ ہو کیا پرواہ ہے۔ مسلمانو! یہ کیسا گنداکفر ہے۔

مسلمانو! سبحان السبوح میں اس مغالطہ مردودہ کا کشف کر دیا ہے اور بعونہ تعالیٰ دامن باغ

سبحان السبوح میں اس سے بھی واضح تر لکھا ہے وہاں سے اسے نقل کر دیں کہ مسلمان دھوکے سے بچیں وہ کشف یہ ہے اقول اندھے سے پوچھو انسان کو کس کے کذب پر قدرت ہے اپنے یا خدا کے۔ ظاہر ہے کہ انسان قادر ہے تو صرف کذب انسانی پر نہ کہ معاذ اللہ کذب ربانی پر اور شک نہیں کہ کذب انسانی ضرور قدرت ربانی میں ہے انسان حیوان تمام جہان کے افعال اللہ عزوجل ہی کی قدرت سے واقع ہوتے ہیں پھر اگر کذب ربانی قدرت ربانی میں نہ ہو تو قدرت انسانی کیونکر بڑھ گئی وہ کذب ربانی پر کب تھی اور جس پر تھی یعنی کذب انسانی اسے ضرور قدرت ربانی محیط ہے مگر جب خدا دین لیتا ہے عقل پہلے چھین لیتا ہے۔ اقول دل کے اندھے نے یہ خیال کیا کہ انسان اپنے کذب پر قادر اور یہی لفظ بارگاہ عزت میں بول کر دیکھا کہ اسے بھی اپنے کذب پر قدرت چاہیے اور نہ دیکھا کہ وہاں اپنے سے انسان مراد تھا اور اب خدا مراد ہو گیا اس کی نظیر یہی ہو سکتی ہے کہ اسی کی طرح کا کوئی کور باطن خیال کرے کہ انسان اپنے خدا کی تسبیح کر سکتا ہے تو چاہیے کہ خدا بھی اپنے خدا کی تسبیح کر سکے ورنہ قدرت انسان بڑھ جائے گی تو خدا کے لیے اور خدا درکار ہوا الیٰ غیر نہایہ انتھی۔

تنبیہ ضروری آئندہ اشعار میں امام الوہابیہ کی خباثت دلائل ظاہر کرنے کو ان پر اکتالیس (۴۱) نقض ہوں گے۔ مسلمانوں کو اتنا ملحوظ رہے کہ اللہ عزوجل تمام عیبوں سے پاک ہے۔ وہابیہ جس کو عیبی مان رہے ہیں خدا نہیں بلکہ ان کے وہم باطل نے اپنی ہوائے نفس اپنی ایک ساختہ تصویر مویوم کو خدا سمجھ لیا ہے قال تعالیٰ اَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ط کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ یہ تمام عیوب و تشنیعات ان کے اسی ساختہ خدا کی طرف راجع ہیں جس طرح سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے سامری کے پھڑے کی نسبت اس سے فرمایا وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ط لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝ اپنے خدا کو دیکھ جسے تو پوجتا رہا ضرور ہم اسے جلائیں گے پھر اس کی راکھ دریا میں بہائیں گے۔

ق بالفعل ان کا ۱۰۹ خدا عیبی ہے
سوئے ۱۱۰ اونگھے ۱۱۱ بھکے ۱۱۲ بھولے ۱۱۳
غفلت ۱۱۴ ظلم ۱۱۵ تھکن ۱۱۶ محتاجی ۱۱۷
کام کو ۱۱۸ اس پر مشکل مانیں
کھائے ۱۱۹ بھی پھر کیوں نہیں اس کو
اف ان کے امکان کی خواری
جوڑ ۱۲۰ اور جوڑ ۱۲۱ ماں ۱۲۲ باپ ۱۲۳ اسکے
اس کا ۱۲۴ شریک اور خواری ۱۲۵ میں یاد
ذلت ۱۲۶ وعجز ۱۲۷ وخوف ۱۲۸ کا کیا غم
پھر امکان تو گاتے یہ ہیں
کیا کیا گت بنواتے یہ ہیں
کونسا نقص براتے یہ ہیں
خلق سے ۱۲۹ اس کو ہراتے یہ ہیں
موہن بھوگ چڑھاتے یہ ہیں
بھیک ۱۳۰ تک اس کو منگاتے یہ ہیں
بچے ۱۳۱ اس کو جناتے یہ ہیں
سب کی کھیپ بھراتے یہ ہیں
موت ۱۳۲ تک اس کو چکھاتے یہ ہیں

۱۰۹ مسلمانو! اس نے کیسا صاف لکھا کہ عیب کی آلائش خدا میں آ تو سکتی ہے مگر اس سے بچنے کے لیے مصلحت احتراز کرتا ہے۔ عیب کی گنجائش ہونا ہی اس سبوح قدوس کے لیے سخت بھاری عیب ہے تو بالفعل اپنے خدا کو عیبی مان رہا ہے۔ (باقی تکمیل ۴۷)

۱۱۰ تا ۱۳۲ امام الوہابیہ نے یک روزی صفحہ ۱۴۵ میں معاذ اللہ مولیٰ عزوجل کے امکان کذب پر دو دلیلیں دیں ایک معتزلی گمراہوں سے سیکھ کر یہ کہ ”جھوٹ نہ بولنے کو اللہ کے کمالات سے گنتے ہیں اس سے اس کی مدح کرتے ہیں اور صفت کمال یہی ہے کہ کذب پر قدرت ہوتے ہوئے بلحاظ مصلحت اس کی آلائش سے بچنے کے لیے چھوڑے سلب عیب کذب و اتصاف بہ کمال صدق سے ایسے ہی شخص کی مدح کریں گے نہ اس کی جس میں وہ عیب آسکتا ہی نہ ہو“۔ اقول اس خباثت کا مفصل رد سب حان السبوح تنزیہ سوم میں ہے یہاں ان نمبروں میں اس دلیل ذلیل پر تیسیس (۲۳) نقض ہیں کہ دیکھو قرآن عظیم نے ان ان باتوں کی نفی سے اللہ تعالیٰ کی حمد کی تیری تقریر سے تیرے نزدیک یہ سب باتیں اللہ عزوجل کے لیے معاذ اللہ ممکن ہوئیں۔ دیکھ ان میں کیا کیا خباثتیں ہیں مرنا تک ہے تو تو نے خدائی بھی کھوئی کہ جس کی موت ممکن ہو خدا نہیں ہو سکتا۔ (ہر امر کے مقابل اس کی آیت تکمیل ۴۸ میں دیکھو)

جتے عیب بشر کر سکتا
 اچھے ۱۳۳ کو دے، کلائیں ۱۳۳ کھائے
 دیکھے ۱۳۵ پھولے ۱۳۶ سٹے ۱۳۷ پھیلے ۱۳۸
 مرد ۱۳۹ بھی عورت ۱۴۰ بھی خنثی ۱۴۱ بھی
 اپنے ۱۴۲ خدا کو محفل محفل
 چاروں سمت ۱۴۳ اک آن میں مونہ ہو
 چو مکھے برہما اور کاٹھا کے
 دیو ۱۴۴ کے آگے گھنٹی بجا کر
 لنگ ۱۴۵ جلیہری کی ڈنڈوتیں
 کتکی ۱۴۶ اشان اور بیساکھی
 زانی ۱۴۷ مزی ۱۴۸ اوچکا ۱۴۹ ڈاکو ۱۵۰
 کونسی خواری باقی چھوڑی
 اپنے خدا کو لگاتے یہ ہیں
 سب کھیل اس کو کھلاتے یہ ہیں
 اس کو ربڑ کا بناتے یہ ہیں
 کیا کیا سوانگ رچاتے یہ ہیں
 کوڑی ناچ نچاتے یہ ہیں
 ناچ اس کا یہ دکھاتے یہ ہیں
 آگے سیس نواتے یہ ہیں
 بم اس سے بلواتے یہ ہیں
 پوجا پاٹ کراتے یہ ہیں
 ڈبکی اس کو کھلاتے یہ ہیں
 سارے جھولے جھلاتے یہ ہیں
 سب اس سے کرواتے یہ ہیں

دیوبندی اضافے

بیٹے ۱۵۱ گائے یہود و نصاریٰ جو رو ۱۵۲ اور ملاتے یہ ہیں
 عقل فرنگ سے باغ خرد میں تین ۱۵۳ خدا لہکاتے یہ ہیں
 چور ۱۵۴ شرابی ۱۵۵ ظالم ۱۵۶ جاہل ۱۵۷ رب پہ روا گنواتے یہ ہیں

۱۵۱ تا ۱۵۳ دیوبندی رسالہ اولہ واہیہ صفحہ ۱۴۲ و ۱۴۳ ”اللہ کے جو رو بیٹا نہ ہونا قرآن سے ہے عقل سے نہیں ولہذا ایسے عقلا اس کے مقرر ہیں جن کی عقل سے فلاسفہ کی عقل کو کچھ نسبت نہیں جنہوں نے فوٹو گراف جیسی چیز ایجاد کی اگر یہ حکم عقلی ہوتا تو ایسے عقلا اس کے سمجھ لینے کے زیادہ مستحق تھے۔“ اقول اولاً اس صریح ضلالت کی کوئی حد ہے کہ اس واحد احد کے لیے جو رو بیٹا عقلاً ممکن ہے ورنہ اتنے بڑے کاریگر کیسے مانتے ثانیاً جو رو ماننے کا افترا نصاریٰ پر بھی گڑھ دیا ثالثاً تین خدا بھی عقلاً ممکن ہوئے ورنہ بھلا ایسے کاریگر کیوں مانتے۔

۱۵۴ تا ۱۵۷ امام الوہابیہ کی اس ناپاک دلیل پر کہ ورنہ آدمی کی قدرت خدا سے بڑھ جائے مولانا غلام دستگیر مرحوم ساکن قصور پنجاب نے نقض کیا کہ آدمی تو ظلم جہل چوری شراب خواری کرتا ہے چاہے کہ تمہارا معبود بھی یہ سب کچھ کر سکے ورنہ آدمی سے قدرت میں گھٹا رہے اس پر دیوبند کے بڑے معتمد گنگوہی صاحب کے خلیفہ اعظم مولوی محمود حسن دیوبندی نے ضمیمہ اخبار نظام الملک ۲۵ اگست ۱۸۸۹ء میں صاف چھاپ دیا کہ ”چوری شراب خواری جہل ظلم سے معارضہ کم نہیں۔ معلوم ہوتا ہے غلام دستگیر کے نزدیک خدا کی قدرت بندہ سے زائد ہونا ضرور نہیں حالانکہ یہ کلیہ ہے جو مقدر العبد ہے مقدر اللہ ہے۔“ اقول مسلمانو! اس کلیہ کے یہ معنی ہیں کہ بندہ جو کچھ اپنی ظاہری قدرت سے کرتا ہے وہ سب حقیقۃً اللہ ہی کی قدرت سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اور اس کے افعال سب کا خالق اللہ ہی ہے نہ یہ کہ جو کچھ بندہ اپنے لیے کر سکے اللہ اپنے لیے کر سکے بندہ پاخانہ پھرے تو اس کا معبود بھی پھر سکے بندہ گلا گھونٹ کر اپنا دم نکال لے تو اس کا معبود بھی اپنا دم نکال کر مر سکے یہ صریح کفر ہے۔ مسلمان دیکھتے جائیں اللہ و رسول کے بارے میں ان کے کتنے گندے ناپاک گھنوں نے اعتقاد ہیں اور پھر دیوبندی علما کہلاتے ہیں۔

۱۳۳ تا ۱۵۰ امام الوہابیہ کی دوسری دلیل یہ تھی صفحہ ۱۳۵ ”اکثر آدمی جھوٹ بولتے ہیں خدا نہ بول سکے تو آدمی کی قدرت خدا کی قدرت سے بڑھ جائے۔“ یہ اٹھارہ (۱۸) نقض اس ملعون مغالطہ پر ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان یا حیوان ان افعال پر قادر ہے تو اس کا معبود بھی یہ سب باتیں کر سکے گا ورنہ قدرت انسانی بلکہ حیوانی سے گھٹ رہے گا۔

فائدہ جلیلہ ہم نے امام الوہابیہ و جملہ وہابیہ کے اس قول سے ایک جلیل فائدہ دامن باغ سبحان السبوح میں استنباط کیا ہے جس سے وہابیہ پر قطعاً لازم کہ اپنے ہر ہر فرد کو کافر مانیں۔ اس کا خلاصہ یہ کہ مثلاً دہلوی و گنگوہی و ناتو توئی و تھانوی یقیناً کافر مرتد ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان اس کا اعتقاد کر سکتا ہے تو خود ان کے منہ خدا بھی کر سکتا ہے اور جس کا اعتقاد خدا کر سکتا ہے وہ یقیناً حق ہے لہذا ان چاروں کا مرتد ہونا یقیناً حق ہے۔ باقی تفصیل اسی رسالے میں ہے۔ (اور دیکھو تکمیل ۳۹)

کھل ۱۵۸ عیبی پوج خدا کو پوجتے اور پجاتے یہ ہیں
 ملک ۱۵۹ خدا سے باہر چیزیں اوروں کی ملک گناتے یہ ہیں
 لاکھوں ۱۶۰ کروڑوں خدا کے پجاری پھر توحید مناتے یہ ہیں
 سب ۱۶۱ خبریں قرآن کی جھوٹی پڑنی روا ٹھہراتے یہ ہیں
 اب تو الوہیت بھی سدھاری ڈھول سے کھال گناتے یہ ہیں

۱۵۸ اقول یہ بھی محمود حسن دیوبندی اور سب وہابیہ کا عقیدہ ہے کہ ان کا خدا کھل نہ ہو تو شراب کا ہے میں پیے گا۔ (دیکھو تکمیل ۵۰)

۱۵۹ اقول یہ بھی محمود حسن مذکور اور سب وہابیہ کا عقیدہ ہے جب ان کا خدا چوری کر سکتا ہے اب فرمائیے چوری کیا ہے پرانی ملک بے اس کی اجازت کے اس سے چھپا کر لے لینا اپنی ملک لے لینے کو کوئی چوری نہ کہے گا تو ضرور ہے کہ بعض چیزیں ان کے خدا کی ملک سے خارج اوروں کی ملک مستقل ہیں جنہیں چرائے گا۔ چور کمزور اور شراب خوار کی اوقات چوری نہ ہو تو کیا ہو۔

۱۶۰ اقول اولاً یہ بھی محمود حسن ذکر کردہ شدہ اور سب وہابیہ کا عقیدہ ہے جب ان کے خدا کے سوا اور بھی ملک مستقل رکھنے والے ہیں تو وہ ضرور مستقل خدا ہوں گے ورنہ بندہ خدا کے مقابل ہرگز مالک مستقل نہیں ہو سکتا ثانیاً آدمی ایک ہی کی نہیں لاکھوں کروڑوں کی چوری پر قادر ہے ان کا خدا اگر وہی ایک کی کر سکا تو پھر آدمی کی قدرت سے کروڑوں درجے گھٹ رہے گا تو واجب کہ دیوبندی صاحب کے لاکھوں کروڑوں خدا ہیں جن کی چوری ان کا خدا کر سکتا ہے۔ (دیکھو تکمیل ۵۱)

۱۶۱ براہین قاطعہ کی طرح گنگوہی صاحب کا ایک رسالہ دوسرے کے نام سے تقدیس القدر ہے اس کے صفحہ ۴۴ میں ہے ”کلام لفظی جو صادق ہے اس کا صدق ممکن الزوال ہے“۔ یعنی یہ قرآن کہ ہم پڑھتے ہیں اس کا جملہ جملہ جھوٹ ہو سکتا ہے بلکہ بالفعل سب جھوٹا ہے تو اللہ کا خدا ہونا بھی جھوٹ ہوا کہ یہ بھی اسی قرآن میں لکھا ہے ان سے بڑھ کر اور کفر کیا ہے۔ (دیکھو تکمیل ۵۲)

اس کے علم ۱۶۲ و خبر میں متخالف کہہ کے خدائی ڈھاتے یہ ہیں
 بلکہ کمال ۱۶۳ اسے ٹھہرا کر گنگا الٹی بہاتے یہ ہیں
 جب ہے کمال خلاف قرآن اب کیا پلہ بجاتے یہ ہیں
 یا تو خدا ہے کمال سے خالی یا قرآن جھٹلاتے یہ ہیں
 رب کا غضب ہو، وحی سے پہلے کس کو ضال ۱۶۴ بتاتے یہ ہیں
 بلکہ ۱۶۵ کہا ایمان سے خالی لعنت ہو کیا گاتے یہ ہیں

۱۶۲ رسالہ مذکورہ گنگوہی صاحب صفحہ ۳۶ ”خلاف ما خبر معلوم حق تعالیٰ کا ہے“۔ یعنی اللہ عزوجل نے جو خبر دی علم الہی میں اس کے خلاف ہے۔ مثلاً خبر دی کہ متقین جنت میں ہیں اور علم الہی میں یہ ہے کہ متقی جنت میں نہیں اقول اس کے ساتھ اگر یہ بھی علم میں ہو کہ متقی جنت میں ہیں جب تو علم الہی میں تناقض ہے اس سے بدتر جہل کیا ہوگا۔ اور اگر علم میں خبر کے خلاف ہی ہے تو اگر علم سچا ہے خبر جھوٹ ہے اور خبر سچی ہے تو علم جھوٹا بہر حال یہ کفر خالص اور الوہیت ہی کا ہدم ہے کہ نہ جاہل لائق الوہیت ہے نہ کاذب۔

۱۶۳ رسالہ مذکورہ گنگوہی صفحہ ۳۳ ”خلاف ما خبر یہ مقدور اور کمال ہے“۔ اقول جب خبر الہی کا خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے کمال ہوا تو یہ خلاف کبھی واقع ہوگا یا نہیں اگر نہیں تو خدا کمال سے خالی رہا اور اگر ہاں تو قرآن کاذب ہوا ہر طرح کفر ہے۔

۱۶۴ و ۱۶۵ رسالہ مذکورہ گنگوہی صفحہ ۵۸ میں یہ بحث چھیڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاذ اللہ مشرک ہونا اور حضور کے تمام اعمال معاذ اللہ برباد جانا ممکن ہے نتیجہ میں یہ لکھا ”صدر و شرک آجنتاب سے لاحالہ ممکن پس جب شرک ممکن ہوا تو حیط اعمال بدرجہ اولیٰ ممکن“۔ اور ضمن استدلال میں یہ آیتیں پیش کیں ”اور کیوں نہ ہو خود ارشاد رب الارباب ہے و وجدک ضالاً فہدیٰ ○ ما کنتم تدری ما لکنب ولا الایمان“۔ یعنی وہ وحی سے پہلے گمراہ تھے وحی سے پہلے ایمان نہ رکھتے تھے یہ کھلا کلمہ کفر اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ (آیتوں کے معنی کو دیکھو تکمیل ۵۳)

مرسل ۱۶۶ لاٹانی کا ثانی گنگوہی کو بناتے یہ ہیں
 قبر ۱۶۷ ہے طور وہ رب یہ موسیٰ کیسے جنون پکاتے یہ ہیں
 اس کے کالے ۱۶۸ غلاموں کو یوسف پاجی پن یہ دکھاتے یہ ہیں
 عبد نبی ۱۶۹ شرک، اندھے کے بندے بن کے بہت اٹھلاتے یہ ہیں
 اس کو ۱۷۰ مجی و متقی کہہ کر عیسیٰ کو چونکاتے یہ ہیں

۱۶۶ محمود حسن دیوبندی مرثیہ گنگوہی میں صفحہ ۹۔

زباں پر اہل اہوا کی ہے کیوں اعل ہبل شاید
 اٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ثانی

اقول گنگوہی صاحب اگر بفرض غلط مسلمان بھی ہوتے تو حسب قول تقویت الایمان حضور کی شان کے
 آگے چمار سے زیادہ ذلیل تھے ایسے شخص کو ان کا ثانی بنانا جن کا ثانی واحد احد نے نہ کسی ملک مقرب کو
 کیا نہ کسی نبی مرسل کو۔ کیسی بے ایمانی ہے۔ (باقی تکمیل ۵۴)

۱۶۷ محمود حسن مرثیہ گنگوہی صفحہ ۱۰۔

تمہاری تربت انور کو دیکر طور سے تشبیہ
 کہوں ہوں بار بار ارنسی مری دیکھی بھی نادانی

اس تمثیل کو دیکھیے گنگوہی کی مٹی کا ڈھیر کوہ طور ہے اور یہ ارنسی کی رٹ لگا رہے ہیں تو یہ موسیٰ کی جگہ
 ہوئے اور گنگوہی خدا کے مثل۔ (باقی تکمیل ۵۵)

۱۶۸ و ۱۶۹ محمود حسن مرثیہ گنگوہی صفحہ ۱۱۔

قبولیت اسے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں

عبید سود کا ان کے لقب ہے یوسف ثانی

عبید جمع عبد ہے اور سود جمع اسود یعنی گنگوہی کے کالے بندے یوسف ثانی ہیں پھر گورے تو گورے۔

اقول اولاً نبی کی توہین کی ثانیاً عبداللکوہی کا شرک اوڑھا۔ (دیکھو تکمیل ۵۶)
 ۱۷۰ محمود حسن مرثیہ دوم گنگوہی صفحہ ۳۳۔

مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا

اس مسیحا کو دیکھیں ذری ابن مریم

اقول اولاً پہلا مصرع تقویت الایمانی و گنگوہی پانی شرک کے چوکھے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ مردوں کو
 زندہ کرنا زندوں کو مرنے نہ دینا اللہ عزوجل ہی کی شان ہے تقویت الایمان صفحہ ۱۱ ”جلانا اللہ ہی کی
 شان ہے کسی انبیاء کو جو ایسا تصرف ثابت کرے وہ مشرک ہے۔“ ثانیاً مصرع دوم میں مسیح علیہ الصلاۃ
 والسلام کو متنبہ کرنا ہے کہ ذرا آنکھ کھول کر دیکھیے مسیحا سے کہتے ہیں نہ وہ جو آپ نے کیا یہ کہ آپ تو
 کہتے تھے ہمیں ہیں یہ دیکھیے ہمارا گنگوہی بھی ایسی کر لیتا تھا۔ دونوں تیور کفر ہیں۔ (دیکھو تکمیل ۵۷)



گنگوہی صاحب

علم اچھا اپنے مرشد شیطان کا علم شہ سے بڑھاتے یہ ہیں
اس کی وسعت نص سے مانیں شرک یہاں پھنٹاتے یہ ہیں
علم غیب ۱۳۳ اہلیس کو مانیں شہ کو کہو، جل جاتے یہ ہیں
ایسے فضل پر اس کو جاتے مولیٰ تجھ کو ہٹاتے یہ ہیں

۱۷۲ و ۱۷۳ گنگوہی صاحب کے یہ کفر عرب تا عجم ہند تا حرم طشت از بام ہیں۔ براہین قاطعہ گنگوہی طبع دوم صفحہ ۵۱ ”شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کونسی نص قطعی ہے جس سے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔“ صفحہ ۵۲ ”افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں برابر بھی ہو چہ جائے زیادہ۔“ ظفر الدین الجید تو ۱۴ برس اور حسام الحرمین گیارہ سال سے بجزہ تعالیٰ لا جواب ہیں اور بھونہ عز وجل قیامت تک لا جواب رہیں گے۔ اب تازہ رسالہ الموت الاحمد دیکھیے جس میں ان عبارتوں کا قطعی کفر خالص ہونا آفتاب سے زیادہ روشن کیا اور اذنا ب گنگوہ کے تمام اوہام کا دندان شکن جواب دیا ہے۔

۱۷۳ براہین صفحہ ۵۱ ”اگر فضیلت ہی موجب اس کی ہے تو تمام مسلمان شیطان سے افضل ہیں تو مؤلف سب عوام میں بسبب افضلیت کے شیطان سے زیادہ نہیں تو اس کے برابر تو علم غیب بزم خود ثابت کرنے۔“ اقول اولاً شیطان کے لیے کیا ٹھنڈے جی سے علم غیب مانا کہ اس سے زیادہ تو زیادہ اس کے برابر اوروں میں نہیں۔ (دیکھو تکمیل ۵۸) ثانیاً شیطان کے علم غیب پر تو ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ماننا کفر و شرک۔ فتاویٰ گنگوہی حصہ ۲ صفحہ ۱۲ ”یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو علم غیب تھا صریح شرک ہے۔“ حصہ ۳ صفحہ ۴۲ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا معتقد قطعاً شرک کافر ہے۔“

صاف ۱۷۴ صریحاً اپنے خدا کا اس کو شریک بناتے یہ ہیں
شرکت کیسی خود ۱۷۵ شیطان کو اپنا خدا ٹھہراتے یہ ہیں
جو اللہ کو جھوٹا مانے صالح اس کو گناتے یہ ہیں
کافر ۱۷۶ گمرہ ۱۷۷ فاسق ۱۷۸ کیسا کرا ۱۷۹ لفظ بچاتے یہ ہیں

۱۷۴ عبارت سابقہ دیکھیے اس میں وسعت علم کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ماننا ایسا شرک کہا جس میں ایمان کا کوئی حصہ نہیں اور شرک یہی کہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت دوسرے کے لیے ثابت کرنا جس سے وہ شریک خدا ہو جائے تو معلوم ہوا کہ یہ وسعت علم ایسی ہی خاص صفت الہیہ ہے کہ دوسرے کے لیے ماننا اسے شریک خدا جاننا ہے اور اسی منہ میں اس وسعت علم کو اہلیس لعین کے لیے ماننا اور اسے نصوص قطعیہ سے ثابت جانا تو نہایت واضح طور پر صاف صاف کہہ دیا کہ اہلیس ان کے نزدیک اللہ کا شریک ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کفر ہوگا۔ اس کا بھی پورا بیان اور وہابیہ کا دفع ہدیان رسالہ الموت الاحمد میں دیکھیے۔

۱۷۵ ابھی گزرا کہ یہاں گنگوہی صاحب ٹھنڈے جی سے شیطان کے لیے علم غیب ثابت مان رہے ہیں اور انہیں کے فتاویٰ حصہ ۳ صفحہ ۷ میں ہے ”اثبات علم غیب غیر حق تعالیٰ کو شرک صریح ہے۔“ تو کیا اپنے منہ سے صریح شرک بنتے نہیں بلکہ ان کے نزدیک شیطان ہی ان کا حق تعالیٰ ہے تو غیر کے لیے اثبات نہ ہوا غیر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں ان کے لیے ثابت ماننا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔

۱۷۶ تا ۱۸۰ گنگوہی صاحب کا فتویٰ ”دو شخص کذب باری میں گفتگو کرتے تھے تیسرے نے کہا میں وقوع کذب باری کا قائل ہوں آیا یہ قائل مسلمان ہے یا کافر بدعتی ہے یا اہلسنت باوجود قبول کرنے وقوع کذب باری کو۔ الجواب اس کو کافر کہنا یا بدعتی ضال کہنا نہ چاہیے وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے اس ثالث کو کوئی سخت کلمہ کہنا نہ چاہیے دیکھو حنفی شافعی پر طعن نہیں کر سکتا لہذا ایسے ثالث کو تھلیل و تفسیق سے مامون کرنا چاہیے فقط واللہ اعلم کتبہ الاحقر رشید احمد گنگوہی عفی عنہ اہ ملخصاً [رشید احمد

شافعی و حنفی ۱۸۰ کے مانند اس کا خلاف مناتے یہ ہیں
 بندوں ۱۸۱ کو قدرت دیدی، حق کو اب بے دخل بتاتے یہ ہیں
 مجھ کو ۱۸۲ بھائی کہو کی تہمت مولیٰ تجھ پر اٹھاتے یہ ہیں

۱۳۰ھ]۔ ”مسلمانو! اس کے بعد کوئی اور درجہ اشدا حبث ارتداد کا رہ گیا ہے جس ملعون نے صراحتاً اللہ تعالیٰ کا کذب واقع مان لیا اسے گنگوہی صاحب کا فربالائے طاق گمراہ درکنار فاسق کچا سخت لفظ کہنے کی ممانعت کرتے ہیں اس کا خلاف حنفی شافعی کا سا بتاتے ہیں۔ کسی نے کہا آمین آہستہ کہو کسی نے کہا آواز سے کہو ایسا ہی اختلاف یہ بھی ہے کہ کسی نے کہا خدا سچا ہے کسی نے کہا خدا جھوٹا ہے اس پر کوئی طعن کی وجہ نہیں پھر اس کی تائید میں خود منہ بھر کر کہتے ہیں ”وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے“ یعنی ہاں ثابت ہو گیا کہ خدا جھوٹا ہے اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ○ یہ تو یٰ یقیناً گنگوہی صاحب کا ہے اور ان کے اذنا ب خود اپنی کتابوں میں آج تک یہی مضمون چھاپ رہے ہیں مگر نادانوں کے چھلنے کو دیدہ و دانستہ مکر تے ہیں۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ط وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے تو نہ کہا اور بے شک وہ کفر کا بول بولے اور اسلام کے بعد کافر ہو چکے۔ (اس کے بیان کو تکمیل ۵۹ ہے)

۱۸۱ یہ فتاویٰ گنگوہی حصہ ۳ صفحہ ۳۱ میں ہے کہ خدا بندوں کو قدرت دے کر فارغ ہو گیا۔ اس کا ذکر تکمیل ۱۳ میں گزرا۔

۱۸۲ اسلغیل نے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا بھائی کہا اس کی حمایت میں گنگوہی صاحب فتاویٰ حصہ ۵۱ صفحہ ۵۱ میں لکھتے ہیں ”خود آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہو“۔ گنگوہی صاحب تم نے تو خود اسی حصے میں صفحہ ۱۲ میں کہا ہے ”واضح ملعون ہے“۔ اور خود یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وضع کر رہے ہو۔ تھانوی صاحب وغیرہ اذنا ب گنگوہی جلد بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے کہ ”مجھ کو بھائی کہو“ ورنہ اقرار کریں کہ گنگوہی صاحب نے جھوٹی حدیث دل سے گڑھی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سخت افترا کیا اور اپنے منہ آپ ہی لعنت پائی۔ اور (دیکھو تکمیل ۶۰)

اپنے ہی مونہ ملعون ہوئے خود نار میں دار چھواتے یہ ہیں
 لعن ابلیس پر اوروں کے مونہ سے اپنے ہی مونہ کی پاتے یہ ہیں
 مونہ کی پائی مونہ کی کھائی بیچ کے کہاں اب جاتے یہ ہیں
 باپ ۱۸۳ کو اپنا قریب بتانا گستاخی ٹھہراتے یہ ہیں
 شاہ رسل ۱۸۳ کو بھائی کہنا ماں کا دودھ بناتے یہ ہیں

۱۸۳ انوار ساطعہ میں تھا ”حاجی امداد اللہ صاحب سے ہم مکہ معظمہ میں ملے“۔ اس پر گنگوہی صاحب کا بھرنادیکھیے براہین صفحہ ۵۵ و ۵۶ ”یہ لفظ ناسعادتمندی کا ہے فقہ میں ہے جس نے باپ کو قریب کہا عاق ہے پس استاد پیر کی نسبت ایسی کلام کس درجہ میں شمار ہوگی“۔ اللہ اکبر حاجی صاحب کی نسبت ہم ان سے ملے کہنا یا باپ کو اپنا قریب کہنا تو ناسعادتمندی اور عاق ہونا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھائی کہنا شیر مادر۔ دل میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدر حاجی صاحب کے برابر بھی ہوتی تو اس کے بنانے کو حدیث نہ گڑھی جاتی۔ (باقی تکمیل ۶۱)

۱۸۴ وہ جو دہلوی نے بھر منہ کفر کا کہ ”میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں“۔ گنگوہی صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹھ دے کر اسے یوں بنانا چاہتے ہیں فتاویٰ حصہ ۱ صفحہ ۲۰ ”مٹی میں ملنے کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ مٹی ہو کر مٹی زمین کے ساتھ خلط ہو جاوے دوسرے مٹی سے متصل ہونا یہاں مراد دوسرے معنی ہیں چونکہ مردہ کو چاروں طرف سے مٹی احاطہ کر لیتی ہے اور نیچے مردہ کے مٹی سے جسدمع کفن ملاحق ہوتا ہے یہ مٹی میں ملنا اور مٹی سے ملنا کہلاتا ہے کچھ اعتراض نہیں“۔ اقول مسلمانو! دیکھو جھوٹ گڑھا اور دانستہ گڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین درست کرنے کو گڑھا کہاں مٹی سے ملنا اور کہاں مٹی میں ملنا ہر اردو داں جانتا ہے کہ مٹی میں ملنا اسی کو کہتے ہیں کہ اجزا خاک میں ایسے مل جائیں کہ جدا کرنا دشوار ہو۔ (باقی تکمیل ۶۲)

مٹی ۱۸۵ میں ملنا مٹی سے ملنا ایک ہے یوں چندراتے یہ ہیں
 پیٹھے رسول اللہ کو دے کر کیسی اوندھی گاتے یہ ہیں
 استمداد ۱۸۶ کریں شیطان سے شرک نبی سے بتاتے یہ ہیں
 مجلس ۱۸۷ مولد شہ ہے خرافات ایسی خرافت لاتے یہ ہیں

۱۸۵ جاہلوں میں آنکھ کھلنے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ سوتے وقت اپنا کان پکڑ کر اپنا نام لے کر ہمزاد سے کہتے ہیں فلاں وقت میری آنکھ کھل جائے گنگوہی صاحب سے اس کا سوال ہوا کہ یہ شیطان سے مدد مانگنی کیسی ہے اس کا جواب دیتے ہیں حصہ ۲ صفحہ ۱۷۸ ”اگر ہمزاد سے اس طرح کہنا مفید ہوتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔“ اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استمداد شرک اور شیطان سے جائز۔ (باقی تکمیل ۶۳)

۱۸۶ و ۱۸۷ براہین قاطعہ گنگوہی صفحہ ۱۳۸ ”یہ ہر روز اعادہ ولادت کا تو مثل ہنود کہ ساگ کنھیا کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں معاذ اللہ ساگ آپ کی ولادت کا ٹھہرا اور خود یہ حرکت قبیحہ حرام و فسق ہے بلکہ یہ لوگ اس قوم سے بڑھ کر ہوئے وہ تو تاریخ معین پر کرتے ہیں ان کے یہاں کوئی قید ہی نہیں جب چاہیں یہ خرافات فرضی بناتے ہیں۔“ مسلمانو! کیا تم بھی اپنے نبی کی میلاد مبارک کو جنم کنھیا سمجھتے ہو ائمہ دین کو کہ اس مجلس اقدس کے عامل رہے ہندوؤں سے بڑھ کر خرافاتی جانتے ہو۔ اس خباثت کی پوری خبر گیری الجزاء المہیا لغلمۃ کنھیا میں دیکھیے۔

سوانگ کنھیا جنم کا ہے یہ پنڈت جی جھونکاتے یہ ہیں
 فاتحہ ۱۸۸ میں قرآن کی تلاوت وید پڑھتے سنا تے یہ ہیں
 قرآن وید ہے قاری پنڈت یہ تشبیہ جماتے یہ ہیں
 فکر بقدر ہمت ہے ، کیا ہندو دھرم دھراتے یہ ہیں
 ہندو دھرم سے بدتر روت جدت جس میں دکھاتے یہ ہیں
 شرک و کفر اوروں کے لیے شر خیر اپنوں ۱۸۹ کی مناتے یہ ہیں

۱۸۸ براہین قاطعہ گنگوہی فاتحہ کی نسبت صفحہ ۷۹ ”تقبہ ہنود کا بھی اس میں مقرر ہے کیونکہ تمام ہنود میں رسم ہے اور ان کا یہ شعار ہے کہ طعام پر بید پڑھواتے ہیں تحفۃ الہنود میں ہے کہ ہر سال جس تاریخ کوئی مر اسی تاریخ ثواب پہنچاتے ہیں اور اس کو ضرور جانتے ہیں اور پنڈت اس کھانے پر بید پڑھتا ہے انتہی پس اگر اس کو رسم ہنود کہیں بہت بجا اور حق ہے۔“ اللہ اللہ قرآن عظیم کی تلاوت وید پڑھتے سے مشابہ ٹھہری روزہ و حج کو برت اور تیرتھ کے مشابہ کہہ دینا اور دیوبند کا مدرسہ کیوں نہیں کھودا جاتا بالکل پاٹ شالہ کے مشابہ ہے سب کام وہی ہیں یہ فرق کہ یہاں قرآن پڑھتے ہیں وہاں وید فاتحہ میں کب کام آیا جو تمہارے مدرسہ میں کام دے گا۔ (باقی تفصیل اور قاہرہ رد کو تکمیل ۶۳)

۱۸۹ اقوال گنگوہی صاحب کا دھرم تو یہ ہے جو ان کے فتاویٰ حصہ اول صفحہ ۹۳ میں ہے ”صاحب قبر سے کہے تم میرا کام کر دو یہ شرک ہے خواہ قبر کے پاس کہے خواہ دور۔“ ایضاً صفحہ ۱۳۰ ”یہ حرام اور شرک بالاتفاق ہے۔“ حصہ ۳ صفحہ ۱۹ ”وہ استعانت جو کفر ہے وہ یہ ہے کہ تم میرا کام کر دو۔“ اور جب اسی استعانت سے سوال ہوا حصہ ۳ صفحہ ۱۵ ”پڑھنا ان اشعار کا جن میں استعانت لغیر اللہ ہے مثلاً یہ شعر

یا رسول اللہ انظر حالنا
 خذ یدی سهل لنا اشکالنا

شاید اشعار شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وقاسم بھی استمداد یہ ہیں۔ یہاں جو اپنوں کا قدم در میان تھا اسی حرام و کفر و شرک بالاتفاق کو دیکھیے کیا خالص حلال ہوا جاتا ہے جواب میں لکھتے ہیں ”نہ ایسے اشعار کا پڑھنا منع نہ مؤلف پر طعن ہو سکتا ہے۔“ یہ ہے گھر کی شریعت کہ جب چاہا کفر حلال کر لیا۔

اپنوں کا زہر ہلاہل ۱۹۰ سب کو شہد بتا کے چٹاتے یہ ہیں
 شہ ۱۹۱ کا رحمت عالم ہونا ہر ملے کو دلاتے یہ ہیں
 یعنی یہ بھی ہیں رحمت عالم ملے خود کہلاتے یہ ہیں
 فضل شہ ۱۹۲ میں بخاری و مسلم سب مردود بتاتے یہ ہیں

۱۹۰ اقول گنگوہی صاحب کا دھرم تو یہ ہے حصہ ۱ صفحہ ۳۱ ”موہم الفاظ کا پڑھنا معصیت ہے ایضاً اس کا بولنا بھی ناروا ہے“۔ صفحہ ۱۱۱ ”پڑھنا ان کا حرام ہے“۔ حصہ ۲ صفحہ ۳۲ ”عوام کو زہر قاتل دینا ہے“۔ حتیٰ کہ حصہ ۳ صفحہ ۳۲ و ۳۵ ”ایہام گستاخی سے خالی نہیں پس ان کا یکتا کفر“۔ اور اسی سوال صفحہ ۱۵ کے جواب میں اپنوں کے نام دیکھ کر کہا ”نی ذاتہ ایہام بھی ہے مگر بندہ اس کو معصیت بھی نہیں کہہ سکتا“۔ یہ ہے گھر کی شریعت کہ جب چاہا کفر اور جب چاہا معصیت بھی نہیں۔ ع گھر کی ملت ہے جیسی چاہی گڑھ لی۔
 ۱۹۱ فتاویٰ گنگوہی حصہ ۲ صفحہ ۱۳ ”رحمۃ للعلّٰمین صفت خاصہ رسول اللہ صلعم (ہم مسلمان لکھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی نہیں ہے انبیاء علما بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں اگرچہ جناب رسول اللہ صلعم (ہم مسلمان لکھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سب میں اعلیٰ ہیں لہذا اگر دوسرے پر اس لفظ کو بتاویل بول دیوے تو جائز ہے“۔ اقول مسلمانوں کے نزدیک رحمۃ للعلّٰمین ہونا قطعاً خاص حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت ہے جس میں اور انبیاء بھی شریک نہیں یہاں اس کی یہ بے قدری کہ دیو بند کا ہر ملا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شریک ہے۔ (دیکھو تکمیل ۶۵)

۱۹۲ گنگوہی صاحب ابلیس کے علم و وسیع پر ایمان لاکر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسعت علم مٹانے کو براہین صفحہ ۵۱ پر کہتے ہیں ”خبر واحد یہاں مفید نہیں“۔ صفحہ ۸۲ ”اعتقادات میں قطعیات کا اعتبار ہے نہ ظنیا صحاح کا“۔ صفحہ ۸۷ ”آحاد صحاح بھی معتبر نہیں“۔ دیکھو کیسا صاف کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسعت علم میں صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیثیں بھی مردود و نامعتبر ہیں۔ اقول اولاً مطلب یہ کہ حضور کی وسعت علم کوئی فضیلت ہی نہیں ورنہ باب فضائل میں تو باجماع ائمہ صحاح کی بھی حاجت نہیں ان سے کم درجے کی حدیثیں بھی مقبول ہیں۔ ثانیاً مانا کہ بخاری و مسلم مردود کر لیں اپنے دشمن قرآن عظیم کا کیا علاج سوچا جس میں آیات قاہرہ حضور کی وسعت علم کے نشان بلند فرما رہی ہیں۔ (دیکھو تکمیل ۶۶)

نقص ۱۹۳ کو ایک بے اصل روایت اپنی برہان لاتے یہ ہیں
 راد ۱۹۴ کو اس کا راوی گائیں کیا بے پر کی اڑاتے یہ ہیں
 فضل شہ کی عداوت دیکھی کیا کیا ہاتھ چباتے یہ ہیں
 یَوْمَ یَعَصُّ الظَّالِمِ کارنگ دنیا ہی سے دکھاتے یہ ہیں
 انجان ان پڑھ کے چھلنے کو کیا کیا جال بچھاتے یہ ہیں
 تقویت الایمان ۱۹۵ کا پڑھنا عین اسلام بناتے یہ ہیں
 یوں قرآن سے اس کو بڑھا کر جب تک کفر منجھاتے یہ ہیں
 عبد عزیز تک ایماں کب تھا اسلام آج پھلاتے یہ ہیں
 نیت اجر ۱۹۶ کا اہل ہے کافر کفر کو کیا چمکاتے یہ ہیں
 ہندو کو کیا اہل سمجھتے اپنی دال گلاتے یہ ہیں

قرآن عظیم میں ہے جس دن ظالم اپنے ہاتھ راتوں سے کاٹے گا۔

۱۹۳ و ۱۹۴ وہاں تک تو حضور کی وسعت علم کو بے ثبوت ہی ٹھہرایا تھا آگے ترقی ہوئی براہین صفحہ ۵۱ ”اس کے خلاف ثابت ہے خود فخر عالم علیہ السلام فرماتے ہیں شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار پیچھے کا بھی علم نہیں“۔ اقول ائمہ حدیث امام ابن حجر عسقلانی و امام ابن حجر مکی نے تصریح فرمائی ہے کہ یہ روایت محض بے اصل و بے سند ہے۔ فضائل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عداوت دیکھیے کہ حضور کے فضائل میں تو بخاری و مسلم کی صحیح حدیثیں بھی مردود اور فضیلت کی نفی کے لیے بے اصل بے سند روایت موجود۔ طرفہ یہ کہ حضرت شیخ عبدالحق رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے روایت نہ کیا بلکہ رد کیا۔ مدارج النبوة میں فرمایا ”یہاں ایک شبہہ پیش کرتے ہیں کہ بعض روایات میں آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں بندہ ہوں اس دیوار کے پیچھے کا حال مجھے نہیں معلوم اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات

مخص بے اصل ہے اور اس کی روایت صحیح نہیں۔“ گنگوہی صاحب کی یہ بھاری خیانت اور دین میں دھوکا دہی قابل ملاحظہ ہے۔ (باقی تکمیل ۶۷)

۱۹۵ فتاویٰ گنگوہی حصہ ۱۳۲ صفحہ ۱۳۲ ”تقویت الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اس کا رکھنا پڑھنا عمل کرنا عین اسلام ہے۔“ اقول اس غلو شدید کو دیکھیے اولاً بزعم خود اس ناپاک کتاب کو قرآن عظیم سے بھی بڑھا دیا جو بات عین اسلام ہو وہ نہ ہوئی تو اسلام نہ رہا کفر ہو گیا کہ عین کی نفی ضد کا ثبوت ہے۔ قرآن کریم کا ماننا عین اسلام ہے جو نہ مانے کافر ہے مگر اس کا نہ رکھنا یا نہ پڑھنا یا عمل نہ کرنا کفر نہیں۔ لیکن تقویت الایمان میں یہ سب کفر ہیں جو اسے پاس نہ رکھے کافر جو نہ پڑھے کافر جو عمل نہ کرے کافر کہ اس نے عین اسلام کو چھوڑا۔ ثانیاً گنگوہی صاحب اگر پیدا ہوتے ہی تقویت الایمان ساتھ لائے پڑھتے آئے ہوں کہ پہلے دنوں میں کافر نہ ٹھہریں تو جب تک تقویت الایمان تصنیف ہی نہ ہوئی تھی صحابہ سے شاہ عبدالعزیز صاحب تک کسی کو اسلام نصیب نہ ہوا کہ عین اسلام سے محروم تھے۔ ثالثاً اس کی تصنیف سے پہلے تک خود مصنف کافر کہ عین شے سے پہلے وجود شے محال ہے۔ (ازالہ وہم کو تکمیل ۶۸)

۱۹۶ فتاویٰ گنگوہی حصہ ۳ صفحہ ۱۵۱ ”ہندو کا دیا ہوا چندہ مسجد میں صرف کرنا درست ہے جب کہ وہ بہ نیت ثواب دیتا ہو۔“ اقول سبحان اللہ کافر اور نیت ثواب یہ شریعت پر افترا اور کفر کی تعظیم ہے۔ ہر مبتدی جس نے شرح وقایہ باب التیمم تک ہی پڑھا ہو جانتا ہے کہ کافر اہل نیت نہیں۔ (اور اس سے بڑھ کر تکمیل ۶۹)



یہ ہیں مفید ۱۹۷ نبی کو جو سمجھے اس پر شرک اوندھاتے یہ ہیں
رب ۱۹۸ کی دوہائی لغو سمجھ کر جبراً شرک مناتے یہ ہیں
وقت ۱۹۹ پڑے پر جائز کہہ کر جادو کرتے کراتے یہ ہیں

۱۹۷ امام اجل کمال الدین دمیری نے بروایت امام ابن السنی شاگرد امام نسائی امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے حدیث ذکر کی کہ جب تو ایسے جنگل میں ہو جہاں شیر کا خوف ہو تو یوں کہہ اعدو بدانیال علیہ السلام وبالجب من شر الاسد میں حضرت دانیال علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے کونین کی پناہ لیتا ہوں شیر کے شر سے۔ اس پر سائل نے پوچھا کہ یہ غیر خدا کی دوہائی کیسی؟ گنگوہی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں حصہ ۱۰ صفحہ ۱۰ ”حق تعالیٰ نے اس کلام میں تاثیر رکھ دی ہے نہ حضرت دانیال وہاں ہوتے ہیں نہ ان کو کچھ علم ہے اگر خود دانیال کو مفید عقیدہ کر لے بدون تاویل تو شرک پس یہ عبارت اگرچہ موہم شرک ہے مگر بوجہ ضرورت اور ارتکاب مکروہ کے اباحت ہے جیسا تو یہ اضطرار میں درست ہو جاتا ہے۔“ اقول اولاً کیسا صاف کہا کہ نبی کو مفید سمجھنا شرک ہے۔ ثانیاً نبی کے لیے تو وہ حکم تھا اور اپنے واسطے یہ ہے حصہ ۳ صفحہ ۵۹ ”مولوی قاسم صاحب کو میرے یہاں سے نفع ہوا ہے اور ان سے اوروں کو نفع پہنچتا ہے۔“ (باقی تکمیل ۷۰)

۱۹۸ اقول ثالثاً اللہ عزوجل کی دوہائی اگر آپ کے نزدیک کام دیتی تو اس شرک کی ضرورت نہ پڑتی معلوم ہوا کہ آپ کے یہاں اللہ کی دوہائی لغو ہے اس سے بلا نہیں ملتی ناچار دانیال کی دوہائی دی جاتی ہے۔
۱۹۹ اقول رابعاً جب یہ شرک و موہم شرک و مکروہ ہے تو حق تعالیٰ اس میں اپنی پسند کی تاثیر نہ رکھے گا جس طرح ذکر الہی میں بلکہ اپنے غضب کے ساتھ جس طرح اور جادوؤں میں۔ انہیں میں سے ایک یہ بھی ہوا اور اسے آپ نے دفع بلا کو مباح کر لیا تو معلوم ہوا کہ آپ کے یہاں وقت پڑے پر جادو کرنا کرانا مباح و حلال ہے۔

شُرک ۲۰۰ مباح ہے بلکہ ہے سنت فعل ۱۰۱ رسول بتاتے یہ ہیں
 بے رب ۲۰۲ کے دیے علم جو مانے کفر سے اس کو بچاتے یہ ہیں
 نار سقر ۲۰۳ میں روشنی سو جھی کیا اندھیر مچاتے یہ ہیں

۲۰۰ و ۲۰۱ گنگوہی صاحب کی لطائف رشیدیہ صفحہ ۲۳ ”شُرک کے افراد مباح تک ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حلف بغیر اللہ کو شُرک فرمایا اور خود حلف بغیر اللہ آپ کے کلام میں موجود ہے سو بولوا ب لینے کے دینے پڑ گئے خود فخر عالم علیہ السلام آجہی تو شُرک ثابت کرتے ہیں اور خود اس کام کو کیا اور انبیاء معصوم عن الشُرک“۔ اقول اللہ اللہ شُرک اور مباح شُرک اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صادر۔ (باقی قاہر کلام تکمیل ۷۱)

۲۰۲ فتاویٰ گنگوہی حصہ ۸۳ صفحہ ۸۳ ”جو یہ عقیدہ رکھے کہ خود بخود آپ کو علم تھا بدون اطلاع حق تعالیٰ کے تو اندیشہ کفر کا ہے امام نہ بنانا چاہیے اگرچہ کافر کہنے سے بھی زبان روکے“۔ اقول کہاں تو وہ تقویت الایمانی شورا شوری کہ اللہ کے دیے سے مانے جب بھی شُرک اور کہاں یہ بے نمکی کہ بے خدا کے دیے خود بخود علم غیب مانے جب بھی کفر نہیں فقط اندیشہ کفر ہے۔ غرض کوئی پہلو ضلالت کا چھوٹ نہ رہے۔
 ع گداے میکدہ ہیں ہر طرح کی ہے پیالے میں۔

۲۰۳ روضہ انور سید اطہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو ہزاروں روپے کے جھاڑ قانون کثرت سے روشن ہوتے ہیں جن کا بیان امام سید نور الدین سمہودی نے خلاصۃ الوفا میں فرمایا اور ان کا نور رسالہ بریق المنار بشموع المزار میں آیا اس مبارک روشنی کی نسبت براہین قاطعہ گنگوہی صفحہ ۱۸ میں ہے ”موجب ظلمات اور نار جہنم کی روشنی دکھانے والی ہے“۔ اقول نار جہنم تو اللہ و رسول کی توجہ کرنے والے دیکھیں گے مگر اس میں روشنی بتانا ظلمت ضلال و انکار نصوص ہے۔ صحیح حدیثوں میں صاف تصریح ہے کہ جہنم کی آگ نری کالی رات ہے جس میں اصلاً روشنی کا نام نہیں۔ (دیکھو تکمیل ۷۲)

دین ۲۰۴ والوں کے ملنے سے اردو شہ کو سکھاتے یہ ہیں
 ان کے نبی کی استاذی کا حق امت پہ جتاتے یہ ہیں
 اف ۲۰۵ پیبا کی شاہ سے اپنی روٹی تک پکواتے یہ ہیں
 ان کی رسوئی کی یہ رسائی حق رسوائی پاتے یہ ہیں
 ہولی ۲۰۶ دوالی کا کھانا جائز جے جے کر کے کھاتے یہ ہیں
 شربت و آب سبیل محرم صاف حرام کراتے یہ ہیں
 نام امام نے آگ لگادی نجد کی ہولی جلاتے یہ ہیں

۲۰۴ براہین قاطعہ گنگوہی صفحہ ۲۶ ”ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا آپ کو یہ کلام کہاں سے آگئی آپ تو عربی ہیں فرمایا جب سے علمائے مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا، ہم کو یہ زبان آگئی“۔ سبحان اللہ صاحب علمت علم الاولین والآخرین صاحب و علمک مالک تکن تعلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیرہ سو برس بعد دیوبندی ملتوں سے اردو سیکھی جن کی اردو یہ ہے کہ ”یہ کلام آگئی“۔ تف تف تف۔

۲۰۵ تذکرۃ الرشید صفحہ ۴۶ ”اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاج آپ کے مہمانوں کا کھانا پک رہی ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی بھاج سے فرمایا کہ اٹھ تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے اس کے مہمان علماء ہیں اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا اس کی تعبیر گنگوہی سے شروع ہوئی آپ ہی پہلے عالم ہیں جو حاجی صاحب کے بیعت ہوئے“۔ مسلمان دیکھیں کہ کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا شاگرد بتایا جاتا ہے کبھی اپنا باورچی بنایا جاتا ہے یوں اپنی عظمت کا سکہ بٹھایا جاتا ہے۔ (باقی تکمیل ۷۳)

۲۰۶ فتاویٰ گنگوہی حصہ ۲ صفحہ ۱۳۱ ”ہندو ہولی دوالی میں کھیلیں پوری اور کچھ کھانا بطور تحفہ بھیجتے ہیں ان کا لینا اور کھانا مسلمانوں کو درست ہے“۔ حصہ ۳ صفحہ ۱۴۵ ”محرم میں ذکر شہادت اگرچہ بروایات صحیحہ

ہو یا سبیل لگانا شربت پلانا یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا یا دودھ پلانا سب نادرست اور تہیہ روافض کی وجہ سے حرام ہیں۔“ اقول جب یہ حرام ہوئے تو وہ پانی شربت دودھ پینا بھی ضرور حرام ہوا کہ حرام پر اعانت ہے اگر کوئی نہ پے تو کسے پلائیں تو اس کا پینا اس حرام کی تکمیل ہو اور تکمیل حرام حرام ہے۔ یہ عداوت نام امام ہے۔ (باقی تکمیل ۷۴)



نانو تو می صاحب

شہ کے پچھلے نبی ہونے کو فضل ۷۷ سے خالی گاتے یہ ہیں
 جیسے ۷۸ ایسے ویسوں کے اوصاف اتنا اس کو گراتے یہ ہیں
 حق ۷۹ پہ فضول اور بے ربطی ۱۰۰ کی لم قرآن پہ لگاتے یہ ہیں
 مدح جو اس کو سمجھے صحابہ نا فہم ۱۱۱ ان کو بتاتے یہ ہیں
 اب سے ان تک امت بھر پر جاہل ۱۱۲ کا مونہ آتے یہ ہیں
 ایک ۱۱۳ صحابہ کیا کہ نبی پر طعن یہی برساتے یہ ہیں
 منکر ختم کو پھر کافر بھی دھوکے کو لکھ جاتے یہ ہیں
 در کفر و دین ماندہ مذذب نے ایماں نہ ثباتے یہ ہیں

۷۷ تا ۱۱۳ تحذیر قاسم صاحب نانو تو می صفحہ ۳۰۲ ”عوام کے خیال میں تو رسول صلعم (ہم مسلمان لکھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ سب میں آخر نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کیونکر صحیح ہو سکتا ہے ہاں اگر اس وصف کو وصف مدح نہ کہیے تو خاتمیت زمانی صحیح ہو سکتی ہے مگر اس میں خدا کی جانب زیادہ گوئی کا وہم ہے اس وصف میں اور قد قامت وغیرہ اوصاف میں جنکو فضائل میں کچھ دخل نہیں کیا فرق ہے جو اسکو ذکر کیا اوروں کو نہ کیا دوسرے رسول (ہم مسلمان لکھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی جانب نقصان قدر کا احتمال کیونکہ اہل کمال کے کمالات ذکر کیا کرتے ہیں اور ایسے ویسوں کے اس قسم کے احوال جملہ ماکان محمد ابا احد من رجالکم اور جملہ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین میں کیا تناسب تھا اس قسم کی بے ربطی خدا کے کلام میں متصور نہیں۔“

خلاصہ یہ کہ خاتم النبیین کے معنے سب میں پچھلے نبی ہونے کو نانو تووی صاحب فرماتے ہیں (۱) جاہلوں کا خیال ہے (۲) اہل فہم کا نہیں (۳) اسے فضیلت میں کچھ دخل نہیں (۴) ایسے ویسوں کے اوصاف کی طرح ہے (۵) یہ معنی ہوں تو اللہ فضول گو ہو (۶) قرآن بے ربط ہو۔ لیکن ہر مسلمان جانتا ہے کہ خاتم النبیین کے یہی معنی ہیں یہی صحابہ و تمام امت نے سمجھے یہی خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متواتر حدیثوں میں بتائے تو قطعاً یہی مراد آیت ہے تو نانو تووی صاحب کے نزدیک تمام امت و صحابہ اور خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ جاہل و نا فہم ہوئے اور اللہ فضول گو اور قرآن بے ربط یہ کفر در کفر صد ہا کفر ہے۔ (قدرے تفصیل کو تکمیل ۷۵)



دھوکا ۲۱۴ کھل گیا چند ورق پر پھر وہی پلٹا کھاتے یہ ہیں
شہ کے بعد نبوت تازہ پاک خلل سے بتاتے یہ ہیں
آپ ہی کافر آپ ہی منکفر اپنی آپ ہی ڈھاتے یہ ہیں
جب ۲۱۵ تو برائے نام خود اپنا اسلام آپ سناتے یہ ہیں

۲۱۴ تحذیر نانو تووی صفحہ ۳۳ ”بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلعم (ہم مسلمان لکھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔“ اقول یہاں اندر کے دل کی لا کر کھول دی خاتمیت زمانی ذاتی سب کی آخر بول دی۔ ظاہر ہے کہ جب بعد زمانہ اقدس کوئی نبی پیدا ہو تو حضور سب سے آخر نبی نہ ہوں گے کہ حضور کے بعد اور نبی ہو اور خاتمیت زمانی باقر تحذیر نانو تووی صفحہ ۲ یہی تھی کہ ”آپ سب میں آخر نبی ہیں۔“ یہ تو بڑا بہت گئی اور اس کے جاتے ہی وہ جو خاتمیت ذاتی گڑھی تھی وہ بھی فنا ہوئی۔ خود تحذیر نانو تووی صفحہ ۹ میں ہے ”ختم نبوت بمعنی معروض کو تاخر زمانی لازم ہے۔“ ظاہر ہے کہ لازم کا انتظام لزوم کا انتقاع ہے تو ختم زمانی و ختم ذاتی سب ختم وقت اور خاتمیت بجالیعنی خالی ہوا۔ روشن ہوا کہ خاتم النبیین سے مطلقاً کفر کیا اور مسلمانوں کو دھوکے دینے کو صفحہ ۱۱ پر لکھ دیا تھا کہ ”اس کا منکر بھی کافر ہوگا۔“ گیارہ (۱۱) ورق بعد خود ہی اس کا اس کا سب کا انکار کر دیا تو اپنے منہ آپ ہی کافر ہوئے۔ وَذَلِكْ جَزَاءُ الظَّالِمِيْنَ ۝ (باقی تکمیل ۷۶)

۲۱۵ تحذیر نانو تووی صفحہ ۴۶ ”اس گنہگار کا اسلام برائے نام ہے۔“ نیز اپنے قصیدے میں کہا۔

کروروں جرم کے آگے یہ نام کا اسلام

کریگا یا نبی اللہ کیا مرے پہ پکار

قد یصدق یہ سچ کہی کہ نانو تووی صاحب کو اسلام سے علاقہ نہیں صرف نام کے مسلمان ہیں یہ اقرار کفر ہے اور اقرار کفر ہے۔ فتاویٰ عالمگیریہ میں ہے مسلم قال انا ملحد یکفر ولو قال ما علمت

انه کفر لا یعذر بهذا.

اول کافر آخر کافر ہر پھر کفر پہ چھاتے یہ ہیں
دھوکا دینے دبا پھر اچھلا کفر کو کتنا بھاتے یہ ہیں
ان کے کفر کا اٹھتا جو بن ناحق اس کو چھپاتے یہ ہیں
سرکش اتنا اتنا ابھرے جتنا جتنا دباتے یہ ہیں
اور ۲۱۶ خداؤں کا وہ خدا ہو رتبہ اس میں بڑھاتے یہ ہیں
مشرک کو اثبات بتاں کی یہ برہان پڑھاتے یہ ہیں
خلق ۲۱۷ سے اس کا تناسب گا کر اربعہ میں اسے لاتے یہ ہیں
ہم کو غلام سے جو ہے، وہ نسبت حق کو ہم سے بتاتے یہ ہیں
یہ ذات طرفین و وسط ہے یوں تثلیث مناتے یہ ہیں
اور رسل ۲۱۸ کی عرضی نبوت ایک دن ان سے چھناتے یہ ہیں

۲۱۶ تحذیر الناس صفحہ ۳۷ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا چھ (۶) خاتم النبیین اور ماننے پر جاہلوں کو یوں بہکایا کہ اس میں حضور کی قدر بڑھتی ہے اکیلے خاتم النبیین ہوتے تو نرے بادشاہ ہوتے اور چھ (۶) خاتم النبیین اور بھی ہوئے اور حضور ان پر بھی حاکم۔ ”تو بادشاہوں پر حاکم“۔ صفحہ ۳۸ پر بتایا ”اس میں رسول اللہ صلعم (ہم مسلمان لکھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی قدر سات گئی“۔ اقول اولاً مسلمانوں کو دھوکا دیا اور بہت پوچ دیا سب میں اعلیٰ کمال یہی ہے کہ بے شرکت غیرے ہو یہ دوسرا درجہ ہے کہ اور بھی شریک ہیں اور یہ زیادہ تو بے شک نانو توئی حضور کی تنقیص قدر میں کوشاں ہے نہ کہ سات گئی بڑھانے میں۔ ثانیاً یو ہیں بت پرست کہیں گے کہ تم تو اکیلا خدا ماننے ہو اور وہ چھین کر اور خداؤں کا خدا تو چھین کر اور درجے خدا کی قدر بڑھاتے ہیں۔ نانو توئی صاحب نے بت پرستی پر جھڑی

کردی۔ (تفصیل کو تکمیل ۷۷)

۲۱۷ تحذیر نانو توئی صفحہ ۲۷ ”خدا تعالیٰ اپنی ان نسبتوں کو جو مخلوق کے ساتھ حاصل ہیں ان نسبتوں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے جو مخلوق کو مخلوق کے ساتھ ہوتی ہیں مثلاً ضرب لکم مثلاً من انفسکم ۷ اهل لکم من ما ملکتم ایمانکم من شرکاء فی ما رزقنکم فانتم فیہ سواء“۔ اقول آیت کا مطلب صاف یہ ٹھہرا دیا کہ خدا کو ہم سے وہ نسبت حاصل ہے جو ہم کو غلاموں سے۔ یہ اللہ عزوجل پر افترا اور اس کی توہین اور اسے اربعہ متناسبہ میں لانا ہے جو مسلمان تو مسلمان کسی ذی عقل کافر سے بھی مسوع نہیں۔ اللہ عزوجل اس سے پاک ہے کہ اس واحد احد فردو تر متعالیٰ کو مخلوق سے تناسب ہو اور وہ بھی ایسا جیسا مخلوق کو مخلوق سے تو اس اربعہ میں تین رہے ادھر خدا ادھر غلام بیچ میں ہم اور تینوں باہم تناسب ہیں یوں تثلیث منائی۔ (باقی تکمیل ۷۸)

۲۱۸ تحذیر نانو توئی صفحہ ۷ ”حدیث کنت نبیا و ادم بین الماء والطين فرق قدم نبوت و حدوث نبوت اور دوام و عروض اس حدیث سے ظاہر ہے“۔ اقول یعنی اس حدیث سے ثابت ہے کہ حضور کی نبوت قدیم ہے اور انبیاء کی حادث حضور کی نبوت دائم ہے اوروں کی عارضی کہ کچھ دن رہ کر فنا ہو جائے گی۔ یہ حدیث پر افترا ہے اور کسی نبی کی نبوت کا زوال ماننا صریح ضلال ہے۔



تھانوی صاحب

شہ ۲۱۹ سا ہر کس و ناکس جانے غیب ، یہ عیب دکھاتے یہ ہیں
علم حضور میں بچے ۲۲۰ پگلے ۲۲۱ کل چوپائے ۲۲۲ بھڑاتے یہ ہیں
ان ۲۲۳ میں نبی میں فرق بتاؤ کس لعنت کی گاتے یہ ہیں
انْ هُمْ اِلَّا كَاَلَانَعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ كَبِهْرَاتِ يَهِي هِي
تھک ۲۲۴ کر اس بدگالی کو اک علمی بحث بناتے یہ ہیں

۲۱۹ تا ۲۲۳ حفص الایمان تھانوی صاحب صفحہ ۸۷ ”آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس سے مراد بعض غیب ہے یا کل اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے سے مخفی ہے تو نبی غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے اور اگر تمام علوم غیب مراد ہیں اس طرح کہ ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا اطلاق دلیل عقلی و نقلی سے ثابت ہے۔“ اس کفر صریح قطعاً و اشد توہین کے رد ہند سے حرم تک عرب سے عجم تک کتب و رسائل و فتاویٰ میں مشہور ہو چکے۔ تھانوی صاحب اور ان کے اذنا ب ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے مگر توہین نہ ٹہنی تھی نہ ہنی۔ (لہذا تکمیل ۹۷ ضرور ملاحظہ ہو کہ ابھی ابھی تھانوی و دیوبندی کے سب مکر کھلے جاتے ہیں)

۲۲۴ تھانوی صاحب نے بسط البنان میں کچھ حرکت مذہبی کی جس کا رد بازرغ و قعات السنان انہیں دنوں میں رجسٹری شدہ تھانوی صاحب کے پہنچ گیا جواب تک لا جواب ہے اور بعونہ تعالیٰ قیامت تک لا جواب رہے گا۔ تھانوی صاحب اپنے جواب کو خود بھی جانتے تھے کہ یہ مذہب کی پھرک کتنی دیر کی لہذا صفحہ ۷ پر بولے ”اگر اس جواب سے بھی قطع نظر کی جائے تب بھی عالیہ مافی الباب ایک علمی سوال ہوگا جس کا اہل علم سے کچھ تعجب نہیں اہل علم کی سنت مستمرہ ہے۔“ اللہ اکبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ شدید انجسٹ گالی اور اس کی بحث ایک علمی سوال جیسا اہل علم میں ہوا کرتا ہے۔ (باقی تکمیل ۸۰)

عیب کی لائے ریب کی گائے غیب سے ویب کما تے یہ ہیں
اس کو ۲۲۵ کافر لکھ گئے جس کو بھینٹ ایمان چڑھاتے یہ ہیں
لیکن جب تک نام نہ جانا جان کے ۲۲۶ جان چراتے یہ ہیں
وہ بچہ نم ۲۲۷ خود کفر اپنا مانتے اور چھپواتے یہ ہیں
قول ہے کفر اور قائل کافر لیکن نام بچاتے یہ ہیں

۲۲۵ و ۲۲۶ اسٹیل دہلوی کی ایضاح الحق کے اقوال کفر و ضلال مذکورہ نمبر ۹۲ تا ۹۵ کی نسبت گنگوہی صاحب سے سوال ہوا گنگوہی صاحب کو معلوم نہ تھا کہ یہ اقوال امام الطائفہ کے ہیں نادانستہ جو حکم معلوم تھا لگا بیٹھے کہ یہ کفر ہے۔ اور تھانوی صاحب نے بھی اپنے ان امام جدید کی تقلید سے اس امام قدیم و ہابیت کے کفر کی تصریح کر دی۔ محمود حسن دیوبندی صاحب وغیرہ نے بھی ملحد زندگی کی جڑ دی۔ مراد آباد کے شاہی مسجد والے اہلسنت سے خارج لکھ گئے۔ ثناء اللہ امرتسری دین سے جاہل کہہ بھاگے۔ یہ سب نادانستہ تھا اب اسٹیل کا نام لے کر تو یہ احکام لکھو الو قیامت تک نہ لکھیں گے۔ لکھنا درکنار وہ جسے کافر لکھ چکے اسے ویسا ہی امام جانیں گے۔ یہ ایمان کا حال ہے۔ اس فتوے کا ذکر بریق المنار میں بھی شائع ہو چکا اور اس میں خاص رسالہ ہے دیوبندی مولویوں کا ایمان۔ (اور اب نقل فتویٰ تکمیل ۸۱ میں)

۲۲۷ الحمد للہ خود تھانوی صاحب نے اپنی عبارت مذکورہ حفص الایمان کا کفر ہونا ٹھنڈے جی سے قبول دیا۔ بسط البنان صفحہ ۳ ”جو شخص ایسا اعتقاد رکھے یا بلا اعتقاد صراحتاً یا اشارتاً کہے میں اس کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں کہ وہ تکذیب کرتا ہے نصوص قطعہ کی اور تنقیص کرتا ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔“ الحمد للہ جو علمائے حرمین شریفین نے فرمایا تھا کہ حفص الایمان والا کافر مرتد ہے جناب تھانوی صاحب نے اس سے بھی بڑھ کر قبولاً۔ رہا عذر معمولی کہ ہا میں نے نہیں کہا اس کا فیصلہ کچھ دشوار نہیں حفص الایمان چھپی ہے پتھی نہیں اب دیکھ لیجیے۔ مسلمانو! فتح مبین پر نعرہ تکبیر بلند کرو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ (تفصیل کو تکمیل ۸۲)

قاتل ٹھنڈے جی سے کافر نام لیے گماتے یہ ہیں
 وار ۲۲۸ جو ختم نبوت پر تھے اب وہ بیچ اگاتے یہ ہیں
 یعنی اپنے نبی چنے کو تسکین بخش بناتے یہ ہیں
 اپنے نام ۲۲۹ پہ استقلالاً صل علی بھنوتے یہ ہیں

۲۲۸ و ۲۲۹ تھانوی صاحب کے رسالہ الامداد صفر ۳۶۶ صفحہ ۳۵ پر مرید کا ایک خواب ہے جس میں اس نے کلمہ میں ”اشرف علی رسول اللہ“ کہا پھر جاگ کر رو رو پڑھنی چاہی تو ”اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا اشرف علی“۔ پڑھا مرید کو دن بھر ایسا ہی خیال رہا اس پر تھانوی صاحب نے اسے جواب لکھا ”اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ قبح سنت ہے“۔ مسلمانو! اللہ انصاف خواب تو خواب بیداری میں بھی اشرف علی ہی کو نبی کہا اشرف علی ہی پر رو رو پڑھا اور دن بھر یہی خیال بندھا اور پھر زبان بہکنے کا عذر مسلم۔ ایسی بہک کبھی سنی ہے۔ تھانوی صاحب کو ایک دفعہ کہے او سنگ بے دین جاے سے باہر ہوں گے اور اگر وہ عذر کرے کہ میں تو جناب تھانوی صاحب کہتا تھا زبان نے میری نہ مانی اور بے اختیار سنگ بے دین کہا کیا یہ عذر سن لیں گے حاشا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین اور تھانوی کی نبوت دن بھر رٹی یہاں مقبول اور اس میں تسلی۔ یہ صریح کفر و تحمین کفر ہے۔ (قدرے تفصیل کو تکمیل ۸۳) کچھ اجمال یہیں سن لیجئے اولاً کبھی اس کی نظیر سنی ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھنا چاہے اور نام اقدس کی جگہ زید و عمر و کا نام لے ثانیاً بقرض غلط اگر زبان بہکنے تو ایک آدھ بار نہ کہ گھنٹوں پہروں۔ جامع الفصولین و فتاویٰ قاضی خان وغیر ہما میں تصریح ہے کہ ایسا بہانہ محض مردود ہے ثالثاً احمد دین نے تصریح فرمائی کہ کفر میں زبان بہکنے کا عذر مسوع نہیں۔ دیکھو شفا شریف امام قاضی عیاض رابعاً خدار انصاف اگر بیٹا دن بھر اپنے باپ کو مغلط گالیاں دے کتا سوز کہہ کر پکارتا رہے اور عذر یہ کرے کہ میں تو کہتا چاہتا تھا اے قبلہ گاہ اے جاں پناہ گم زبان میرا کہنا نہ مانتی اور پلٹ کر یوں کہتی تھی کہ او سنگ بے دین او خاک گمراہ کیا جہان بھر میں کوئی اس عذر کو سن لے گا خامساً آہ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں تھیں جن پر اسے تسلی دی گئی اگر ان کی جگہ دن بھر اشرف علی کلب و خنزیر کہتا اور وہی زبان بہکنے کا عذر کرتا کیا تھانوی صاحب سن لیتے اور تحریر فرماتے کہ اس واقعہ میں تسلی ہے حاشا بلکہ جاے سے باہر ہوتے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس پر دن بھر حملے ایسے سہل ہیں کہ کفر خالص کو تسلی بخش کہہ کر خود دنیا کفر اوڑھا جاتا ہے۔ (زیادہ تفصیل کو تکمیل ۸۳)

بہکی زباں اور دن بھر بہکی
 ان کی ثنا تھی نبی کی ذم تھی
 ان کو برا کہنا تو یہ حیلہ
 شیخ جی مرزا کے ہوئے وارث
 پتہ ماں مرزا سے پایا
 ماں ۲۳۰ کا ادب کافر بھی کرے گا
 واقعہ ڈھالیں ماں کا آنا
 جن پر لاکھوں مائیں تصدق
 کیوں ادب صدیقہ کریں کیا
 وہ تو مسلمانوں کی ماں ہیں
 ان کی جو روداد ہے بد ہے
 کو کبہ میں ستر ہی تھے جن پر
 یہ تو دو سوتیں ہیں اب کس

اف اف کیا بہکاتے یہ ہیں
 یوں یہ عذر مناتے یہ ہیں
 سنتے یا جل جاتے یہ ہیں
 شیخی جس پہ دکھاتے یہ ہیں
 بلکہ اسے شرماتے یہ ہیں
 ان کی سنو کیا گاتے یہ ہیں
 زن کا ذہن لڑاتے یہ ہیں
 تعبیر ان کی بناتے یہ ہیں
 دین کا دینا دھراتے یہ ہیں
 کب اسلام رکھاتے یہ ہیں
 بد روداد ہی پاتے یہ ہیں
 قارون گنج بساتے یہ ہیں
 تحت ثریٰ کو جاتے یہ ہیں

۲۳۰ رسالہ تھانوی الامداد صفر ۳۵ ”ایک صالح کو مکشوف ہوا کہ احقر (اشرف علی تھانوی) کے گھر میں حضرت عائشہ آنے والی ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا ذہن معاً اس طرف منتقل ہوا (کہ کس عورت اس کے ہاتھ آئے گی) اس مناسبت سے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تو حضور کا سن شریف پچاس سے زیادہ تھا اور حضرت عائشہ بہت کم عمر تھیں وہی قصہ یہاں ہے۔“ اللہ اکبر کوئی بھنگی پچار بھی ماں کی تعبیر جو رو سے نہ کرے گا مگر تھانوی صاحب خوب سمجھتے ہیں کہ وہ تو مسلمانوں کی ماں ہیں۔ یہ مسلمان کب ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال کریمہ کو قصہ کہنا اور اپنا حال

عین حال حبیب ذی الجلال بتانا کہ وہی یہاں قصہ ہے کیسی بے ادبی ہے۔ (باقی تکمیل ۸۴)

مسلمانو! یہ حضرات ہیں وہ جن کو عالم و عارف و امام ملت و حامی سنت و ماحی بدعت و حکیم امت و شہید فی سبیل اللہ وغیرہ وغیرہ کہا جاتا ہے اور کا ہے پر؟ اللہ و رسول کی ان گالیوں پر انا للہ وانا الیہ راجعون اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آنکھیں کھولے کہ اللہ و رسول کے دشمن کو دشمن جانیں اور ان کے سایہ سے دور بھاگیں۔ اے میرے رب! توفیق خیر دے۔ امین و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا و آلہ و صحبہ اجمعین۔
امین والحمد للہ رب العالمین۔



ذکر اصحاب و دعائے احباب

تیرے رضا پر تیری رضا ہو اس سے غضب تھراتے یہ ہیں
بلکہ رضا کے شاگردوں کا نام لیے گھبراتے یہ ہیں
حَامِدًا مِّنِّي أَنَا مِنْ حَامِدِ حَمْد سے ہمد کھاتے یہ ہیں
عبد سلام ۲ سلامت جس سے سخت آفات میں آتے یہ ہیں
میرے ظفر ۳ کو اپنی ظفر دے اس سے شکستیں کھاتے یہ ہیں
میرا امجد ۴ مجھ کا پکا اس سے بہت کچھاتے یہ ہیں
میرے نعیم الدین ۵ کو نعمت اس سے بلا میں سماتے یہ ہیں

۱ حضرت انجی المظلم جناب مولانا مولوی محمد حامد رضا خاں صاحب قادری برکاتی نوری خلف اکبر و خلیفہ
علیہ حضرت مجدد مائتہ حاضرہ مدظلہ مصطفیٰ رضا قادری غفرلہ

۲ حضرت حامی السنن جناب مولانا مولوی محمد عبدالسلام صاحب جیلپوری قادری برکاتی رضوی از اجل
خلفائے علیہ حضرت مدظلہ ملقب از حضرت بلقب عید الاسلام

۳ جناب حامی سنت مولانا مولوی ظفر الدین صاحب بہاری قادری برکاتی رضوی خلیفہ علیہ حضرت مدظلہ
مخاطب از حضرت بولدی الاعز

۴ جناب حامی سنت مولانا حکیم ابوالعلا مولوی محمد امجد علی صاحب اعظمی قادری برکاتی رضوی مصنف
بہار شریعت خلیفہ علیہ حضرت مجدد مائتہ حاضرہ مدظلہ العالی و مدرس مدرسہ اہلسنت و جماعت و مہتمم مطبع
اہلسنت و جماعت بریلی

۵ جناب حامی سنت مولانا مولوی حافظ محمد نعیم الدین صاحب چشتی اشرفی و قادری برکاتی خلیفہ
علیہ حضرت مدظلہ العالی

۱ احمد اشرف ۲ حمد و شرف لے اُس سے ذلت پاتے یہ ہیں
 ۳ مولانا دیدار علی ۴ کو کب دیدار دکھاتے یہ ہیں
 ۵ مجبور احمد مختار ۶ ان کو کرتا ہے مرجاتے یہ ہیں
 ۷ عبد علیم ۸ کے علم کو سن کر جہل کی بہل بھگاتے یہ ہیں
 ۹ ایک اک وعظ عبد الاحد ۱۰ پر کتنے نتھنے پھلاتے یہ ہیں
 ۱۱ بخش رحیم ۱۲ پہ رحمت جس سے آرے کے نیچے آتے یہ ہیں
 ۱۳ جوہر منشی لعل ۱۴ پہ ہیرا کھا مرنے کو منگاتے یہ ہیں

۱ حضرت بابرکت حامی سنت از اولاد امجاد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مولانا سید ابو
 المحمود احمد اشرف اشرفی جیلانی زینت کچھو چھہ شریف ابتداء تلمیذ علی حضرت مدظلہ

۲ جناب حامی سنت مولانا مولوی ابو محمد سید دیدار علی صاحب رضوی الوری مفتی آگرہ خلیفہ علی حضرت مدظلہ
 ۳ جناب حامی سنت مولانا مولوی احمد مختار صاحب صدیقی میرٹھی قادری برکاتی رضوی خلیفہ علی حضرت مدظلہ
 ۴ جناب حامی سنت فاضل نوجوان مولانا مولوی حاجی محمد عبد العلیم صاحب صدیقی میرٹھی قادری برکاتی
 رضوی خلیفہ علی حضرت مدظلہ

۵ ملقب بسطان الواعظین مولانا مولوی حاجی عبد الاحد صاحب قادری برکاتی رضوی خلف حضرت مولانا
 مولوی محمد وصی احمد صاحب محدث سورتی قدس سرہ و خلیفہ علی حضرت مدظلہ

۶ جناب حامی سنت مولانا مولوی محمد رحیم بخش صاحب آروی قادری برکاتی رضوی خلیفہ علی حضرت مدظلہ
 ۷ حامی سنت حاجی بدعت مولانا منشی حاجی محمد لعل خاں صاحب مدرسی نزیل کلکتہ قادری برکاتی رضوی خلیفہ
 علی حضرت مدظلہ

۱ آل الرحمٰں ۲ برہان الحق ۳ شرق پہ برق گراتے یہ ہیں
 ۴ تازہ ضرب شفیق احمد ۵ سے کہنہ بخار اٹھاتے یہ ہیں
 ۶ دے حسنین ۷ وہ تفتح ان کو جس سے برے کھیاتے یہ ہیں
 ۸ نجدیہ میں ہلچل رہے ان کی جیسے ہل ان پہ چلاتے یہ ہیں
 ۹ کم کو فزوں فزوں کو فزوں تر کردے ترا ہی کھاتے یہ ہیں
 ۱۰ اپنوں میں ان کے مثل فزوں کر تیرا ذکر بڑھاتے یہ ہیں
 ۱۱ دل میں ہراس نہ لانے دینا دل میں آنی چکاتے یہ ہیں
 ۱۲ ان پہ کرم رکھ سر پہ قدم رکھ تیرے ہی کہلاتے یہ ہیں
 ۱۳ تیرے گدا ہیں تجھ پہ فدا ہیں تیرا ہی کھاتے گاتے یہ ہیں

صلی اللہ علیک وسلم
 بارک شرف مجدد کرم

۱۳ یہ فقیر غفر لہ القدر محمد مصطفیٰ رضا قادری برکاتی نوری ولد اصغر و شرف بخلاف علی حضرت مدظلہ و مہتمم
 دارالافتاء حضرت

۱۴ حامی سنت فاضل نوجوان مولانا مولوی محمد عبد الباقی برہان الحق جیلپوری قادری برکاتی رضوی خلف رشید
 حضرت مولانا عید الاسلام و خلیفہ علی حضرت مدظلہ

۱۵ مولانا مولوی محمد شفیق احمد صاحب پسرپوری قادری برکاتی رضوی خلیفہ علی حضرت مدظلہ و امین الفتویٰ
 دارالافتاء حضرت

۱۶ انخی المکرم مولانا مولوی حسنین رضا خاں صاحب بریلوی قادری برکاتی نوری تلمیذ و خلیفہ علی حضرت
 مدظلہ و خلف اوسط حضرت عم مکرم مولانا مولوی محمد حسن رضا خاں صاحب قادری برکاتی نوری قدس سرہ۔

معذرت اسماء احباب سلم اللہ تعالیٰ میں چھوٹے چھوٹے ناموں پر اقتصار ایک توجیح نظم ہے ثانیاً تقاضائے محبت میں کچھ یوہیں زیادہ پیارا معلوم ہوا مثلاً یہ سرکار عرش مدار میں عرض ہے سرکاروں کے حضور غلاموں کے نام بڑھا کر نہیں لیے جاتے یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو مسائل بواسطہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائے جیسے جامع صغیر وغیرہ میں وہاں امام ابو یوسف کا نام لیا محمد عن یعقوب عن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت کہ تعظیم تھی نام امام کے آگے نہ ذکر کی۔ نام احباب میں رعایت ترتیب میں یہ بھی مانع ہوا کہ اپنے عربی قصائد میں اگرچہ تین سو شعر تک ہوں التزام ہے کہ قافیہ اصلاً مکرر نہ آئے اردو میں اتنی وسعت کہاں۔ اس قصیدے میں ۱۳۲ قافیے تو اصلاً مکرر نہ ہوئے باقی میں یہ التزام ہے کہ کوئی قافیہ نو شعر سے پہلے مکرر نہ ہو اس کے لحاظ نے اشعار میں فصل لازم کیا پھر اصل بات یہ ہے کہ جس سرکار کی یہ مدح اور اس کے دشمنوں پر قدح ہے اس میں یہ جزئیات ملحوظ احباب بھی نہ ہوں گے کہ اصل مقصود بجدہ تعالیٰ ہمارا ان کا عین ایمان ہے ولله الحمد و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و ابنہ و حزبہ اجمعین۔ امین۔

ضروری عرض بعونہ تعالیٰ اس کے بعد چوراسی (۸۴) تکمیلیں ہیں مسلمان ہوشیار رہیں حواشی کے مختصر بیان پر وہابیہ حسب عادت چھوٹے مکر پیش کریں گے یہ مطلب نہیں یہ مطلب ہے اس کی وہن دوزی کے لیے تکمیلات آئندہ کا ملاحظہ ضرور ہے کہ بعونہ تعالیٰ ہر مکر کافور ہے۔



اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاستمداد پر

تکمیلیات

تالیف:

شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم

حضرت مولانا الشاہ مصطفیٰ رضا خاں بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

پروف ریڈنگ:

مفتی نفیس احمد مصباحی رضوی

استاد دارالعلوم مخدومیہ، ردولی شریف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی یہ وہ مضامین جلیلہ ہیں جنہیں دیکھ کر ہر منصف ذی عقل مسلمان وہابیت پر نفرین کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ امام الوہابیہ پر عرب و عجم کے علمائے کرام نے ہمیشہ رد فرمائے مگر بفضلہ تعالیٰ یہاں جو مذکور ہوگا اکثر تازہ رو ہیں کہ اب تک نظر سے نہ گذرے ہوں گے۔ ایسے اکثر رد لفظ 'اقول' سے شروع کیے جائیں گے 'ذٰلِکَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَیْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝ رَبِّ اَوْزِعْنِیْ اِنْ اَشْکَرْتَ نِعْمَتَکَ الَّتِیْ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلَى وَالِدَیَّ وَاِنْ اَعْمَلْتُ صٰلِحًا تَرْضَهُ وَاَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ اِنِّیْ تَبِتُ الِیَّکَ وَاِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ۝' یہ شرح کے وہ مضامین ہیں کہ حواشی پر گنجائش نہ ہونے سے ذیل میں لکھے گئے نیز سلیم طبیعتیں دو حرف بیان سے سمجھ لیتی ہیں، ان کے لیے اسی قدر باذنہ تعالیٰ بس تھا اور وہابییہ اگر شک ڈالیں تو بفضلہ تعالیٰ یہ تفصیل موجود وباللہ التوفیق ہر تکمیل سے پہلے وہ شعر مع ہندسہ اقوال لکھ دیا ہے جس کی یہ تکمیل ہے کہ فہم میں آسانی ہو۔

ڈیڑھ سو اقوال امام الطائفہ اسمعیل دہلوی صاحب

۱۔ شہ کو رسل کو ملک کو جو مانے اس کو خدا سے چھڑاتے یہ ہیں تکمیل: اقول یہی نہیں کہ انبیاء و ملائکہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننا امام الوہابیہ نے صرف خطب ہی ٹھہرایا ہو بلکہ اُسے ہر حرام سے بدتر حرام کیا۔ صفحہ ۵۹ پر کہا آدمی کتنا ہی گناہوں میں ڈوب جائے اور محض بے حیا ہی بن جائے اور پرایا مال کھا جانے میں کچھ قصور نہ کرے اور کچھ بھلائی برائی میں امتیاز نہ کرے تو بھی شرک کرنے اور اللہ کے سوا اور کسی کو ماننے سے بہتر ہے۔ یعنی شراب پینا، چوری کرنا،

ڈاکا ڈالنا، حرام کھانا، حرام کرنا، حرام کرانا یہ سب باتیں حرام ضرور ہیں مگر انبیاء و ملائکہ و محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننا ان سب سے بدتر ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مسلمانو! کیا اسلام اسی کا نام ہے۔

۳۔ حق سے چھوٹا اُن سے اعظم نہ بیچ میں اور مناتے یہ ہیں وہ سب رکھے چمار سے بدتر ٹھا کر کس کو بناتے یہ ہیں تکمیل ۲: اقول، اس نے اللہ عزوجل کو بڑے سے بڑا ہے، دوسرا وہ بڑا کہ ذلیل ذلیل بتایا تو یہاں چار ہوئے ایک اللہ کہ بڑے سے بڑا ہے، چوتھا تمام مخلوقات کو ذلیل نہیں اور اللہ سے چھوٹا ہے، تیسرا ایک ذلیل، چوتھا تمام مخلوقات کہ اُس ذلیل سے ذلیل ہے تو اللہ اور مخلوق کے درمیان دو اور ہوئے ایک بڑا کہ خدا سے بڑائی میں کم ہے دوسرا ذلیل کہ مخلوق سے ذلت میں کم ہے اور اگر یوں مانے کہ وہ ایک ہی ہے جو اللہ سے کم بڑا اور مخلوق سے کم ذلیل ہے جب بھی بیچ میں تیسرا ماننے سے چارہ نہیں۔ یہ اگر صفات الہی کو کہا کہ نہ خالق ہیں نہ مخلوق تو اللہ کی صفتیں ذلیل ٹھہرائیں اور یہ کفر ہے اور اگر غیر صفات کو کہا تو ذات و صفات کے سوا ایک اور کو مانا کہ اللہ کا مخلوق نہیں یہ بھی کفر ہے۔ شاید ہندوؤں کے بتوں کو کہا کہ انھیں وہ ٹھا کر کہتے ہیں اور یہ تمام مخلوقات کو چمار کہتا ہے اور ٹھا کر چمار سے بڑا ہوتا ہے اور باہن سے ذلیل وہ باہن اس کا معبود ہوا۔

۱۔ لا واللہ وہ شان خدا ہے ڈرے سے جس کو گراتے یہ ہیں
رب کا مقابل سمجھے رسل کو اپنا شرک بھلاتے یہ ہیں
ان کی عزت حق سے جدا ہے دونوں کی تول کراتے یہ ہیں

تکمیل ۳: وہاں چمار سے بھی ذلیل کہا یہاں ڈرہ ناچیز سے بھی کمتر یعنی چوہڑے چمار سے بھی بدتر کہ وہ پھر انسان ہیں اور انسان کو عزت بخشی ہے "ولقد کرمنا بنی آدم" اور اپنی گالی کا پردہ یہ رکھا کہ ہم نے تو اللہ کی شان کے رو برو کہا ہے۔ اقول مس

قدر و اللہ حق قدرہ ظالموں نے اللہ ہی کی شان کی قدر نہ کی۔ اللہ عزوجل ایک قوم کا حال بیان فرماتا ہے "یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسوله" اللہ اور اُس کے رسولوں میں جدائی ڈالنی چاہتے ہیں، فرماتا ہے "اولئک ہم الکفرون حقا" یہی حقیقی کافر ہیں اللہ اور اُس کے رسولوں میں یہ جدائی ڈالنا ہے کہ ان کی عزت، ان کی عظمت اللہ کی عزت و عظمت سے جدا ہے۔ حاشا لئلیا کی شان اللہ ہی کی شان ہے۔ انبیاء کی عزت اللہ ہی کی عزت ہے، انبیاء کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے۔ دیکھو ائمہ دین نے فرمایا ہے کہ غیر خدا کے لیے تو اضع حرام ہے پھر علما وغیر ہم معظمان دین

☆ حواشی ☆

(۱) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ۔ ضروری الملاحظہ: مسلمانو! واحد قہار عزوجل کے غضب سے اُس کی پناہ پھر اُس کے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پناہ جب وہ کسی سے اُس کا دین لیتا ہے عقل و حیا پہلے چھین لیتا ہے دیوبندیوں و ہابیوں پر یہ قاپر و بدعت سے بار بار شائع ہو رہا ہے مگر سب خواب عدم میں ہیں وہ تو فرمایا دیا تھا کہ دم ہے فلاں فلاں وغیر ہم کی دیوبندی یا وہابی مقلد یا غیر مقلدین بے دینوں میں دم کہاں اور دم نہیں تو جواب کیساع کچھ ایسا سوتے ہیں سونے والے کہ حشر تک جاگنا سم ہے۔ سوتا بھی جاگے بھی مروہ کیا کر وٹ لے۔ مگر شیر پنجاب لاندہ ہی مسزای اے ایچ ثناء اللہ امرتسری کو پھر پھری آئی ہرچاہل حدیث ۱۶ مئی ۱۹ میں فتاویٰ مبارکہ العطایا النبویہ فی الفتاویٰ الرضویہ کے رسالہ باب العقائد والکلام کا مضمون ہدایت مشون (جس میں عام و ہابیہ کی ۶۳ ضلالتیں خباثیں اور ان کے ساتھ دیوبندیہ کی ۸۲ اور ان کے ساتھ غیر مقلدوں کی پوری سو بیسند و حوالہ مذکور ہیں جن میں یہ قاپر و بدعت بھی ہے، نقل کر کے اپنا اور اپنے یعنی بھائیوں کا دکھڑا رویا جواب ناممکن تھا مگر قسموں کی ڈھال بنائی کہ ہم خدا کو اور اُس کے فرشتوں کو گواہ کر گئے کہتے ہیں کہ یہ ہم پر دیوبندیوں و ہابیوں پر سراسر بہتان ہے جھوٹ ہے افترا ہے سبحن اللہ اُس رسالہ مبارکہ میں سو دلیلوں سے یہی تو ثابت فرمایا تھا کہ تم خدا کو جانتے ہی نہیں جو خدا ہے اُسے تم مانتے نہیں اور جسے مانتے ہو اللہ عزوجل اُس سے برتر و متعالی ہے پھر خدا جانے کس خدا کو گواہ کر کے یہ صریح جھوٹا حلق بک رہے ہو اللہ عزوجل پہلے ہی فرما چکا ہے یشہد اللہ علی ما فی قلبہ وهو اللد الخصام۔ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ کرتا ہے۔ اور وہ سب جھگڑا لوگوں سے بڑھ کر ڈھیل ہے اتخذوا ایمانہم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر اللہ کی راہ سے روکا اُن کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ بات صاف ہی حوالے موجود تھے۔ اللہ بھلا کرے حامی سنت، حامی بدعت، حامی شنی محمد علیٰ خاں صاحب سلمہ کا انہوں نے مبارک رسالہ ایک گز و سہ فاختہ بیٹا ک ملقب بلقب ایڈیٹر اے ایچ اور اُس کے حلقی بیچ در بیچ کے رد میں شائع فرمایا اور آنکھوں سے معدور ایڈیٹر کو کتاب مشعلوں سے دکھایا سو کہ سوتا پرورد ہابیہ دیوبندیہ کی عبارات، بحوالہ صفحہ نقل فرما کر ثابت کر دیے اور ان کے سوا مسٹر کے اسی پرچے سے اُن کے پندرہ کفر اور گناہ دیے اور بتا دیا کہ ہمیں اللہ عزوجل کے اسمائے حسنیٰ پر ہرگز ایمان نہیں اور ساتھ ہی وہ جو مسٹر بدعت سے تعریف اہل سنت میں جھولتے اور ہر ایک پر منہ آ کر پھولتے تھے اُس کا خاتمہ کر دیا اسلام کی تعریف ان سے پوچھی کہ اسلام کے مدعی ہو پہلے یہ تو بتاؤ اسلام کسے کہتے ہیں اُس کی ایسی تعریف دکھاؤ جس پر ویسے اعتراض نہ ہوگیں جو تم تعریف اہل سنت پر بھارتے ہو اور ساتھ ہی لکھ دیا کہ ہم کہہ دیتے ہیں نہ دکھا سکو گے پھر کس منہ سے مسلمانی کے مدعی ہو نیز ثابت (بقیہ اگلے صفحے پر)

کے لیے تو اضع کا حکم دیا ہے۔ اگر ان کی عزت اللہ ہی کی عزت نہ ہوتی تو ان کے لیے تو اضع حرام ہوتی قال اللہ تعالیٰ "فان العزة لله جميعا" ساری عزت اللہ کے لیے ہے اور فرماتا ہے "ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين" عزت تو اللہ اور

کر دیا کہ تمہارے انہیں اعترافوں سے اللہ و رسول جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام و ایمان کی جو تعریفیں فرمائیں سب غلط ٹھہرتی ہیں نیز اسی پر ایک قاہر سوال کیا کہ دیکھو اللہ و رسول جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رسولوں کو ماننا رکھنا ایمان بتایا اور تمہارا امام تقویٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کسی کو نہ مانا اور ان کو ماننا محض خبط ہے اب فرمائیے اللہ و رسول نے محض خبط کو رکھنا ایمان بتایا یا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبط کو رکھنا کفر ہوا اور جب وہ کافر تو اس کے توبہ، اس کے معتقد تم اور یونہی سب کافر ہوئے یا تمہیں بیسوا تو جو جروا بیسوا تو جو جروا بیسوا تو جو جروا غرض وہ مختصر مبارک رسالہ قابل دیدہ کلکتہ ذکر یا اسٹریٹ نمبر ۲۲ حاجی صاحب موصوف سے مل سکتا ہے۔ مسٹر کا پرچہ ۱۵ شعبان کا تھا اور یہ مبارک جواب ۲۷ شعبان کو مسٹر کی چٹلی چلی طبیعت نے یہ ہزار مصیبت دو مہینے تو جھیلے چپ رہی سوچی ہوگی کہ نہ راہ وقت نہ روئے مانتا جواب دے تو کیا دے روشن آفتاب کو کمرانے کی بڑی آڑ جھوٹا حلف تھا اس یک گز و سہ فاختہ نے اس کی ڈھال بھی چھلنی کر دی نہ دے تو ڈھٹائی بے حیائی کا دھرم بھر شٹ ہوتا ہے آخر تیرے مہینے ہی سوچی کہ کچھ نہ کچھ بک دو رسول کو ماننا تو محض خبط ٹھہری چکا ہے۔ اور اللہ بھی خیال ہی خیال ہے جو چوریاں کرے، شرایتیں بنے۔ ایسے کا کیا خوف تو جو کچھ ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحی وما نحن بمبعوثین بس ہی دنیا کی زندگی ہے اسی میں مرنا چھینا اٹھنا نہ ہوگا تو دنیا میں سکوت کی رو سی اہی کیوں لیں لہذا ۴ ذی القعدہ کو اس مبارک رسالے پر دینے کی حیا ہوتی تو اب کوئی جواب دیا جاتا کچھ اپنی اور اپنے سارے طاقت کی گمراہی بناتی جاتی مگر ناممکن واقعہ کیونکر ہو جائے اور جھوٹے حلف کی ڈھال پہلے پاش پاش ہو چکی ہے لہذا اب کی اپنا اور یونہی سب کا کافر دہریہ ہونا صاف کھلے لفظوں میں قبول دیا اور جنہوں نے رسالہ مبارک کے یک گز و سہ فاختہ یا وہ ارشاد جلیل باب العتقاد و الکلام نہ دیکھا ہو ان پر دن دہاڑے اندھیری ڈالنے کو یہ چال چلی کہ ہم تو ایسا ماننے والوں کو کافر دہریہ کہہ رہے ہیں بھلا ہم ایسا ماننے۔ حالانکہ ہر دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ یقیناً ہمیں ایسا ماننے ہوا اور یقیناً ہمیں وہ ہو جسے خود کافر دہریہ کہہ رہے ہو یہ چال بھی تو ہی صاحب سے۔ کبھی انہوں نے سالہا سال قاہر ضریوں کے صدمے جھیل کر وسط البنان میں یہی ڈھرا پکڑا کہ کھلے لفظوں میں اپنا کافر ہونا قبول دیا بلکہ جتنا حکم علما نے کرام حرمین شریفین نے ان پر لگا ہوا تھا اس پر بھی اضافہ کیا جس کا بیان ان کے اقوال میں آتا ہے۔ پھر بھی انہوں نے اپنی گڈی بنانے کو دم توڑنے کی کچھ حرکت مذہبوی تو کی جس پر ۱۲ قاہر ضریوں و قعات السنان اور ۲۹۴ سحر کن ردا و خال السنان میں ہوئے مسٹری اے انج پیارے کچھ نہ بول سکے صرف اپنے کفر و دہریت کے اقرار و اعلان پر قاعدت کی اس مضمون میں اہل حدیث کے کفر بیاسات کا لم سیاہ کیے ہیں۔ ڈھائی کالم میں تو رسالہ مبارک کا کلام نقل کیا ہے باقی سارا ردنا لٹریچر کا روایا ہے کہ طرز تحریر خراب ہے اور اس رونے میں بھی اپنے معدوم ایمان کو پھر روٹیٹھے فرماتے ہیں واللہ نہیں آپ کے اختلاف عقائد کی اپنی شکایت نہیں نہ کفری اعتقادات سے اتنی نفرت جتنی آپ کے لٹریچر (طرز تحریر سے) مسلمانوں! طرز تحریر کی شکایت یہی تو ہے کہ ان کے نزدیک ان کو سخت سست الفاظ کہے اب مسٹر ایڈیٹر اسلامی عقائد کو کفری اعتقادات کہہ کر حلف سے کہتے ہیں کہ ان کو کفر سے اتنی نفرت نہیں جتنی درشت کلامی سے۔ مسلمانوں! کیا یہ مسلمان کی شان ہے کہ اسے کفر سے نفرت کم ہو مسلمانوں! کفر کیا ہے اللہ و رسول جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معاذ اللہ تکذیب۔ کیا یہ مسلمان کی شان ہے کہ اللہ و رسول کو جھوٹا کہنا اپنے برا کہنے سے بلکا جانے خیر نہ تو ان کی اندرونی حالت ہے جو خود کھول دی کہ کفر سے نفرت کم ہے (کم نفی مطلق پر بھی بولتے ہیں) دل میں اللہ و رسول سے زیادہ اپنی قدر ہے (بھی نفی محض پر بھی موجود کو تفصیل دیتے ہیں اہل جنت کو خیر مستقر فرمایا حالانکہ

اس کے رسول اور ایمان والوں ہی کے لیے ہے۔ اگر ان کی عزت عزت الہی سے جدا ہوتی تو عزت کے حصے ہو جاتے۔ ساری عزت اللہ کے لیے نہ ہوتی تو اس نے اللہ ہی کی شان کو پچھارے بدتر اور ذرہ ناچیز سے کمتر کہا۔ اقول، ساری علت وہی فرق

مستقر جنہم میں اصلاً خیر نہیں) یعنی نہ کفر سے صاحب ایڈیٹر کو اصلاً نفرت نہ دل میں اللہ و رسول کی اصلاً قدر و منزلت یہ ضرور سچ ہے۔ رہی شکایت طرز تحریر وہ ابھی ابھی بہت سہل دہج ہوتی ہے اولاً مسٹر کے جواب کو ذکر کریں وہی اس شکایت کو دفع کر دے گا غرض یہ تمام کالم مسٹر نے ان مہملات میں سیاہ کیے کہ کسی طرح نکا دے کر خریدارا اخبار یہ جائیں تو مسٹر شیر پنجاب نری تراشیر قالمین نہیں جواب کے نام صرف یہ لکھی کے حرف ہیں کہ بس اس پر ہمارا آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ ہماری کسی معتبر کتاب سے یہ حوالہ دکھادیں۔ اس سارے جواب کی ترکی اتنی ہی ہے جس کا حاصل وہی کانوں پر ہاتھ دھرا جھٹکی اوپر سے ہوتی آئی ہے قال اللہ تعالیٰ یحللھون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمة الکفر و کفروا بعد اسلامھم حلف اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا اور بیشک بیشک کفر کا بول کہا اور مسلمان کہلا کر کافر ہوئے۔ نہیں نہیں مجھی کو کہو ہوا جواب کی ایک سطر یہ ہے ایک اور ہے وہ اس سے بھی مزے کی ہے مسٹر نے اس کے متصل رسالہ مبارک کا ایک اور اعتراض نقل کیا کہ "وہابی ایسے کو خدا مانتے ہیں جو لواطت جیسی خبیث نے حیاتی کا مرتکب ہونا حتی کہ سخت کی طرح خود مقبول بننا کوئی خیانت کوئی فضیحت اس کی شان کے خلاف نہیں وہ لکھنے کا مہر اور بھرنے کا پیٹ اور مردی و زنی کی دونوں علامتیں بالفضل رکھتا ہے۔" مسٹر نے اس کا نام مکرر حوالہ رکھا اور جواب میں فرمایا ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی نسبت ایسا بد عقیدہ رکھنے والا کافر بلکہ دہریہ ہے۔ ساتوں کالم میں صرف یہ دو سطر ہیں جواب کی ہیں اور بس جواب ہو گیا یعنی عقل و حیا و ایمان و دین سب کو۔ اب ہمیں یہاں مسٹر سے چند ضروری سوال ہیں سوال اول بہت ادب سے گزارش کہ آپ کے امام الظاہر اسٹریٹنگیل دہلی صاحب کی ایک روزی اور آپ کے ہم تو ادیو بند یوں کے سرغنہ مولوی محمود حسن دیوبندی صاحب کی تحریر نظام الملک (جن کو آپ اس پرچے میں بھی "حامیان سنت و ناصران ملت ماحیان بدعت" لکھ رہے ہیں) کیا آپ کے یہاں کی معتبر کتابیں نہیں۔ سارے وہابیہ تو کیا آپ کے ہم زبان ہوں گے آپ ہی اپنی تحریر پر قائم رہ کر ابو الوفا نے ہوا اپنی اسی وفا کا جی رکھ کر لکھ تو جائے کہ ہاں ہاں اسٹریٹنگیل دہلی و اہل دیوبند کافر دہریہ ہیں کیا آپ ابھی ابھی اعلان نہ کر چکے پھر نارندا ہے۔ سوال دوم مسلمانوں! اس صریح خیانت اور دن دہاڑے تحریف کو دیکھتے رسالہ یک گز و سہ فاختہ صفحہ ۱۵ اور اس کی اصل مبارک صفحہ ۳۵ مطبوعہ موجود ہیں ان میں یوں تھا لواطت کا مرتکب ہونا خود مقبول بننا کوئی خیانت اس کی شان کے خلاف نہیں یعنی وہابی دھرم میں یہ بتایا گیا اس پر ممکن ہیں اس کا یہ بتانا لواطت کا مرتکب ہونا خود مقبول بننا یعنی یہ واقعہ ہوتی ہیں تاکہ ناواقف کو چھل چکیں کہ دیکھو ان کا وقوع ماننا ہماری کسی معتبر کتاب میں نہیں۔ کیوں مسٹر کیا یہ ابو الوفا کی کیوں مسٹر یہ دیدہ کی صفائی۔ سوال سوم شاید جاہلوں کو یوں دھوکے دیں کہ ان وہابی کتابوں میں وہ مذہب یہی جس سے یہ سب ناپاکیاں یقیناً ثابت ہیں مگر خاص لواطت مقبولیت ان الفاظ سے تو اقرار نہیں کیا ہر عاقل نہیں جانتا کہ یہ کید ضعیف میں سے ہے جب وہابی کتابوں میں اس ملعون مذہب کی صریح تصریح ہے جس سے یہ سب یقیناً ثابت تو مان کر مکرنا کھلی ڈھٹائی چلی بے حیائی ہے یا نہیں انہیں لفظوں کو آپ لٹریچر کا نقص کہتے ہیں سبحن اللہ اللہ و رسول کو برا کہیے اس پر مسلمان پچھتائیں تو ڈھٹ نہیں پھر کوئی ڈھٹائی کا نام نہ لے ورنہ مسٹر لٹریچر ہے۔ سوال چہارم بہت اچھا ڈھٹائی نہیں آپ کے یہاں یہی ابو الوفا ہے اپنی اسی وفا کا صدمہ یہ تو بتا دیجیے کہ اگر زید کی کو ولد الحرام لکھے تو کیا نہ کہا جائے گا کہ اس نے اس کی ماں کو زانیہ کہا اس پر وہ روئے پیٹے ہائے داغے بجائے کہ مجھ پر جھوٹ بہتان افترا ہے میری کسی معتبر کتاب میں یہ لفظ دکھا تو دو کہ اس کی ماں زانیہ ہے میں نے تو یہ کہا کہ وہ ولد الحرام ہے تو کیا وہ عیار مکار خبیث کذاب فریبی دعا باز نہ ہوگا۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

ڈالنا ہے کہ اس نے انبیاء و اولیاء کو خدا کے مقابل ایک مستقل ہستی سمجھا ہے۔ وہاں کہا اللہ کی شان کے آگے یہاں کہا اس کے روبرو، آگے اور روبرو مقابل ہی کو کہتے ہیں۔ گنگوہی صاحب نے اسی ملعون قول کا چاک سلانے کو اپنے فتاویٰ حصہ اول صفحہ ۸۷

سوال پنجم تک جنتی سے کیا کام آپ اپنی بیٹی لہجے آپ نے اپنے ترک اسلام صفحہ ۴۴ پر دیانند کی عبارت نقل کی کیا پریشور رام میں تھا اور اس پر اعتراض جمایا کہ ایسور جنس کا خون تو نہ کھاتا ہوگا میں بھولا یا خانے سے تو ضرور آلودہ ہوتا ہوگا (چیز) یہ ہے مشرک لٹریچر۔ حیر اس سے کیا عرض یہ دیکھیے کہ پاخانے سے آلودہ ہونا حیض کا خون کھانا آپ کے سوامی کی عمارت میں کہاں تھا پھر آپ نے کیونکر انسانی جھوٹ اعتراض جھا کر سنت نصاریٰ کی تقلید سے تالیاں پیٹیں۔ نہیں نہیں اعتراض پیشک ٹھیک ہے اور جیسا وہ آپ کے سوامی پر ٹھیک ہے یہ آپ پر ٹھیک آترا یا نہیں۔ سوال چشم جانے دو وہ بات جس پر یہاں آپ سارا ٹیوٹور رکھ رہے ہیں یعنی آپ کے معبود کا چوری کر سکتا آپ کے حامی سنت، ناصر ملت، حاجی بدعت نے نظام الملک میں اس کے تو خاص لفظ کی تصریح کی ہے کہ جہل ظلم چوری شراب خوری سے معارضہ کم نہیں۔ یہ لکھیے کہ جو مقدور العبد پر مقدور اللہ ہے پھر جنتی لنگن کس کا کام ہے؟ سوال پنجم یعنی جانی جانے دیجئے کتنے کتنے بھول گئے پھر سرے سے کن بیچے دھرم دھرم سے بول چلئے (۱) آپ کے دھرم میں آپ کا معبود ہاں ہاں وہی جیسے آپ اپنے خیال میں اللہ جل شانہ تو علم تو الکلہ رہے ہیں چوری کر سکتا ہے یا نہیں کہو۔ ہاں ضرور کر سکتا ہے ورنہ انسان سے قدرت میں گھٹ رہے گا (وہ دیکھو اسے امام الظائف کی میگزینی صفحہ ۱۲۵) ورنہ ہر مقدور العبد مقدور اللہ نہ رہے گا (وہ دیکھو اپنے حامی سنت ناصر ملت کی تحریر نظام الملک) ورنہ آپ کے نزدیک علی کل شئیء قلیوہ نہ رہے گا (وہ دیکھو سب کذابوں کی سب منہی) (۲) جب وہ چوری کر سکتا ہے تو اپنی ملک چرائے گا یا پرانی۔ کہو کہو کہ پرانی۔ اپنی ملک لینا چوری نہیں ہو سکتا۔ (۳) جب وہ پرانی ملک چرائے گا تو اس کے سوا اور بھی مالک مستقل ہوئے نہیں۔ کہو ہوئے اور پیشک ہوئے۔ (۴) کیا بندہ خدا کے مقابل کسی چیز کا مالک مستقل ہو سکتا ہے کہ وہ خشنے خاص اس کی ملک ہو خدا کی نہ ہو۔ کہو کہو ہرگز نہیں۔ (۵) جب بندہ خدا کے مقابل مالک مستقل نہیں ہو سکتا اور تمہارے معبود کے سوا ضرور اور بھی مالک مستقل ہے جس کا نمبر ۳۳ میں اقرار کر چکے ہو۔ کہو کہو جلد کہو کہ ہاں مانا اور ضرور مانا۔ (۶) بندہ کروروں کی چوری کر سکتا ہے خدا ایک ہی کی کر سکے زیادہ پر قادر نہ ہو تو میگزینی و پرچہ نظام الملک اور تم سب اصحاب عقیدہ کذب کے نزدیک بندے سے کروروں درجہ قدرت میں گرا ہوا رہے گا یا نہیں کہو ضرور رہے گا اور یہ جائز نہیں۔ (۷) جب یہ جائز نہیں تو تم پر کروروں خدا مانا واجب ہوا یا نہیں۔ کہو کہو اور جلد کہو کہ پیشک اور یقیناً یہی وہابی دیوبندی دھرم سے کہ خداؤں کی کلتی کروروں سے بھی سوا ہے۔ کہیے پھر جھوٹ بہتان افتراء کا رونا مکاری کا رونا تھا یا نہیں؟ اُف اُف اُف تفت تفت تفت۔ سوال پنجم اب فرمائیے آپ خود اپنے افتراء ہاں اسی پرچے سے اپنے جگہ لکھے ہوئے اعلان سے کافر دہریے ہوئے یا نہیں۔ کہو کہو اور جلد کہو کہ ہوئے ہوتے بے شک ہوئے اور ہیں پھر مشرک لٹریچر کی کیا شکایت کافر دہریے کہتے ہے زیادہ سخت اور کیا ہے جس کا گلہ ہے۔ کافر دہریے شرعاً سخت لفظ کا حق ہے یا تنظیم مکریم کا۔ اور اگر پھر پلٹا کھاؤ کہ نہیں نہیں ہم ایسے نہیں تو یہی عرض ہے ان حیوانوں اور خود اپنے اقرار و اعلان سے عہدہ برآ ہو جائیے۔ اس وقت ہم آپ کی مان لیں گے کہ ہمارا اس وجہ سے آپ کو کافر کہنا غلط تھا ہم یہ لفظ فوراً واپس لیں گے مگر لٹریچر کی شکایت اب بھی بے معنی ہو گی شرعاً لفظ کافر ہی سخت لفظ کا حق نہیں بلکہ ہر گز ہر بدین اپنی گمراہیاں ضلالتیں جن کا مختصر بیان چابک لیٹ و پیکان جاں گداز و باب العقائد والکلام و یک گز دوفاختہ و یک گز وسر فاختہ وغیر ہا رسائل میں ہے سب سے نکل کر اپنے آپ کو کسی مسلمان بنا لیجئے اس وقت ہم اپنے سب الفاظ واپس لیں گے اور آپ کی بڑی مدح شائع کریں گے کیوں یہ صلاح مانگے گا یا نہیں۔ سوال پنجم مسز آپ نے تو پرچہ ۵ شعبان ۱۶ مئی میں یہ حلف اٹھایا اور خدا کو گواہ کر کے کہا تھا کہ یہ سراسر

میں اس لفظ کی تصریح کی کہ فخر عالم حق تعالیٰ کے مقابلہ میں یہ ان شرک پرستوں کا کھلا شرک ہے۔ انہوں نے دو مستقل عزتیں رکھیں ایک اللہ کی دوسری انبیا اولیا کی اور ان کا باہم یوں موازنہ کیا کہ اس کے مقابل یہ پچار اور ذرہ سے بھی بدتر ہے حالانکہ یہ اُسی کے ظل ہیں، اُسی کی عزت ان میں تجلی فرما ہے پھر ناپ تول کیسی۔ اگر بلا تشبیہ آئینے میں بادشاہ کے عکس کی اُس کے مقابل تذلیل کیجیے کہ یہ تو اُس کے سامنے نہایت ہی ذلیل و ناپاک سوار سے بھی بدتر ہے تو یہ بادشاہ ہی کی تو بین ہوگی کہ اُس عکس میں بادشاہ ہی کی خوبی جلوہ گر ہے۔ اسی لیے انبیا و اولیا سے مدد مانگنا شرک بتاتے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک خدا سے جدا ہستی ہیں جیسے مشرکوں کے بت۔ حالانکہ

بہتان ہے جھوٹ سے افتراء ہے اب سو میں سے صرف ایک پر فیصلہ کیا کہ بس اس پر ہمارا آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ ہماری کسی معتبر کتاب سے یہ حوالہ دکھادیں اور دیجیے رسالہ یک گز وسر فاختہ میں صاف متنبہ کر دیا تھا کہ بقرض باطل اگر ان پوری سوضریوں میں بعض خالی بھی جائیں (حالانکہ وہ یقیناً سب جگر دوز وعدو سوز ہیں) جب بھی مسز اپنے منہ خدا کے منکر خدا سے کافر ہیں کہ وہ سراسر جھوٹ بہتان افتراء کہہ چکے ہیں تو اگر ان کو خدا پر ایمان کا ادعا ہے تو ہر ضرب کی نسبت جھوٹ بہتان افتراء ہونے کا ثبوت دیں ورنہ اپنی ہی بڑی آیت اپنے اوپر خود بھی الٹ لیں بس کا آپ ہی ترجمہ کیا ہے کہ افتراء اور بہتان وہی کرتے ہیں جن کو خدا پر ایمان نہیں ہوتا مگر یہ کہ اپنے اسی پرچہ ۳ ذی القعدہ میں ایک کز کی یہ عبارت بلف چراغی کے لیے نقل بھی کی ہے۔ یہ پھر بس ایک پر فیصلہ (ڈھٹائی بے حیائی پر آپ لٹریچر روئیں گے) کمال ابو الوفائی ہے یا نہیں ع وفا کے باپ بنے ہو وفا کا دھیان رہے۔ سوال دہم ان سوضریوں کا تو یہ جواب ہوا کہ اپنے منہ اپنے آپ اور اپنے حامیان سنت دیوبندی اور سارے کے سارے وہابیوں کو کافر دہریے قبول دیا پھر (۱) وہ جو یک گز وسر فاختہ سے ۱۵ آکر آپ ہی کی تحریر سے آپ پر بڑھاے۔ (۲) وہ جو آپ کو تعریف اسلام سے عاجز بتایا وہ جو ثابت کر دیا کہ کس منہ سے ادعائے مسلمانی تم ابھی اسلام کو جانتے ہی نہیں۔ (۳) وہ جو ثابت کیا کہ مولوی امام الدین صاحب ساکن کوٹلی سلمہ کی تعریف اہل سنت پر آپ کا اعتراض بعینہ اُس تعریف اسلام پر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی۔ (۴) نیز اُس تعریف ایمان پر جو حضور اقدس نے ارشاد فرمائی۔ (۵) بلکہ خود اللہ عزوجل پر جو اُس نے مومن کی تعریف کی۔ (۶) وہ جو کافراں کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار جتنا جانتے تھے کہ ہمیں جیسے آدمی ہیں انہیں کافر۔ (۷) وہ جو طویل کالتیاء ثابت کیا تھا کہ تم نے جناب تھا نو صاب کو کافر مشرک کہہ دیا اس کے مقلد تم ہوئے۔ (۸) وہ جو طویل کالتیاء ثابت کیا تھا کہ تم نے جناب تھا نو صاب کو کافر مشرک کہہ دیا اس جرم پر کہ انہوں نے تمام عالم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بندہ مانا۔ وغیرہ وغیرہ ان تمام قاہر تاجروں کو مشرک و شکاری اس پرچہ میں یوں چھپائی ہے کہ رسالہ مذکورہ میں اور بھی بہت مثنوی یا میں ہیں جن کو نقل کر کے ہم اپنے ناظرین کو ملوں کرنا نہیں چاہتے اللہ رے اعراض۔ یہ صریح مکاری اور اپنے مجز و کر بڑی نہایت شرمناک طریقے سے پردہ داری ہے یا نہیں عرض۔ عیار ہو پیا ک ہو جو آج ہوتی ہو۔ بندے ہو مگر خوف خدا کا نہیں رکھتے۔ مسلمان تو دیکھا یہ ہے شیر قالین پنجاب کی شیری ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد والہ وصحبہ وابنے و حوزہ اجمعین امین والحمد لله رب العالمین ۱۱۴ غفرلہ)

اُن سے مانگنا یعنی خدا سے مانگنا ہے۔

۷۔ ان کا نام دھرا ناکارے کفر کے کام تو آتے یہ ہیں
تکمیل ۴: یہ ناپاک عبارت بھی اسی دعویٰ صفحہ ۱۱ کے ثبوت میں لکھی کہ انبیا اولیا کو
پکارنا شرک ہے۔ یہاں محبوبان خدا کو عاجز ناکارے کہا ہی تھا اور یہ کہ وہ کچھ فائدہ
نقصان نہیں پہنچا سکتے یعنی بیل اور سانپ سے بھی گئے گزرے۔ سانپ نقصان دیتا
اور بیل فائدہ پہنچاتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ولہم فیہا منافع و مشارب۔
اقول ساتھ لگے اللہ پر بھی عنایت کہ اُسے شخص کہا ایسے شخص کا مرتبہ ایسے ناکارے
لوگوں کو صفحہ ۶۳ پر کہا اللہ وہ شخص ہے۔ شخص اُبھرے ہوئے جسم کو کہتے ہیں اور اللہ
عزوجل جسم و جسمانیات سے پاک مگر جب اس کے نزدیک اُسے جہت و مکان سے
پاک ماننا گمراہی ہے جیسا کہ عن قریب آتا ہے تو آپ ہی اُسے جسم ٹھہرایا۔

۸، ۹۔ ان کے منہ میں خاک ہو کس کر مٹی میں مر کے ملاتے یہ ہیں
پھر اس کفر کی تہمت شہ پر رکھ کر خاک اڑاتے یہ ہیں
تکمیل ۵: مر کر مٹی میں ملنا یہ کہ جسم گل کر خاک ہو اور خاک میں خاک مل جائے یہ
صریح تو ہیں اور کلمہ کفر ہے۔ فقہائے کرام نے اس پر حجاج کی تکفیر کی جس کا بیان
کو کبہ شہابیہ میں ہے، مسلمانوں کا ایمان وہ ہے جو خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا "ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد
الانبیاء" (زاد ابن ماجہ) فنبی اللہ حسی یرزق "بے شک اللہ عزوجل نے
پیغمبروں کا جسم کھانا حرام فرمایا ہے۔ نبی اللہ زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔
گنگوہی صاحب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹھ دے کر
یہاں جو اپنے امام کی حمایت و تحمیت جاہلیت کی ہے اُس کی خبر گیری اُن کے اقوال
میں آتی ہے۔

۱۲ تا ۱۶۔ فوق رسالت شہ میں نہیں کچھ جملہ خصائص ڈھاتے یہ ہیں

اسرا رویت ختم نبوت سب کو عدم میں سلاتے یہ ہیں
تکمیل ۶: مولیٰ عزوجل نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لاکھوں فضائل
عالیہ خاصہ عطا فرمائے کہ کسی نبی و رسول نے نہ پائے از انجملہ فوق سماوات معراج
ہونا، اس زندگی میں دیدار الہی ہونا، خاتم النبیین ہونا، ظاہر ہے کہ یہ فضائل فقط رسول
کہنے میں نہیں آسکتے ورنہ رسول تو سب ہیں، سبھی میں ہوتے لیکن امام الوہابیہ کے
نزدیک حضور کی جتنی خوبیاں، جتنے کمال ہیں سب رسول کہہ دینے میں آجاتے ہیں تو
صاف کہہ دیا کہ حضور میں کوئی خوبی، کوئی کمال ایسا نہیں جو سب رسولوں میں نہ ہو۔ یہ
معراج و دیدار و ختم نبوت و شفاعت کبریٰ و افضلیت مطلقہ و غیر ہا تمام خصائص حضور
سے صریح انکار اور کھلا کفر ہوا۔

۱۹ تا ۲۱۔ واقف ہیں احکام سے باقی سارے فضل گماتے یہ ہیں
کل اعجاز تمام محاسن سب پر لا کھینچواتے یہ ہیں
تکمیل ۷: اقول جب امام الوہابیہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صرف
اتنی بڑائی مانی کہ اللہ کی راہ بتانے اور بھلے برے کاموں سے واقف ہیں تو باقی جملہ
فضائل اور ظاہر و باطن کے تمام محاسن جمیع معجزات ان سب سے تو کفر ہوا ہی رسالت
کی بھی خیر نہ رہی۔ ظاہر ہے کہ راہ بتانا اور واقف ہونا رسول کے ساتھ خاص نہیں، بس
ایک عالم ہادی کی شان رہ گئی جو وہابیہ خود امام الوہابیہ کے لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی
راہ بتاتا اور بھلے برے کاموں سے واقف تھا۔ اقول بلکہ یہ خود راہ پر ہونے کو بھی
مستلزم نہیں بہتیرے ہیں کہ بھلے برے سے واقف ہیں اور اوروں کو راہ بتاتے اور خود
عمل نہیں کرتے۔ قال اللہ تعالیٰ "اقام مرون الناس بالبر وتنسون انفسکم
وانتم تسلون الكتاب افلا تعقلون" کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے اور اپنے
آپ کو بھولتے ہو اور تم کتاب پڑھتے ہو کیا تمہیں عقل نہیں۔ امام الوہابیہ نے حضور
اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بس اتنا مرتبہ رکھا۔

۲۲ یہ بہتان بھی شہ پر رکھا کتنا حق کو ستاتے یہ ہیں تکمیل ۸: وہاں یعنی کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر معنوی افترا تھا یہاں حضور پر صریح افترا ہو گیا۔ اقول اولاً وہاں بڑائی کا ذکر تھا یہاں مطلق امتیاز کا اسی میں حصر ہو گیا۔ مع قدم فق پیشتر بہتر ثانیاً: وہاں تک ہدایت باقی تھی یہاں وہ بھی اڑ کر نری احکام دانی رہ گئی کہ حضور نے فرمایا مجھے صرف اتنا امتیاز ہے کہ میں احکام جانتا ہوں لوگ غافل۔ غرض۔ چندا تکہ رخس حسن نہد بر سر حسن ایں دہلویک کفر نہد بر سر کفر

۲۳ معجزہ امتیت شہ سے پیر کا جہل ملاتے یہ ہیں تکمیل ۹: شفا شریف امام قاضی عیاض ص ۳۳۷ میں ہے کہ ایک جوان نیک مشہور سے کسی نے کہا چپ کہ تو اسی ہے۔ اس کی زبان سے نکلا کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتی نہ تھے۔ فکفرہ الناس اس پر علمانے اسے کافر کہا اور وہ ڈرا، پشیمان ہوا۔ امام ابوالحسن قابسی نے فرمایا کافر کہنا تو ٹھیک نہیں، ہاں یہ اس کی خطا ہے کون النبی امیا آية له و کون هذا امیا نقیصه فيه و جهالة آتی ہونا حضور کے لیے معجزہ ہے اور اس کا ناخواندہ ہونا اس میں عیب و جہالت ہے، سزا کا مستحق تھا اب کہ نادم ہوا چھوڑ دیا جائے۔

۲۴ شہ کے حکم پہ چلنے میں بھی شرک کی ہنڈی پٹاتے یہ ہیں تکمیل ۱۰: دہلوی نے جس بات کو شرک کہا یعنی نبی کے حکم پر چلنا جو وہ برتنے کہیں برتا، جس سے منع فرمائیں باز رہنا، قرآن عظیم نے یعنی اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے ”وما اتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا“ رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ یہ قرآن مجید میں شرک مانا بلکہ حضور اور تمام رسولوں کی رسالت سے انکار ہوا۔ رسول بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے حکم پر چلیں جو برتا فرمائیں برتیں، جس سے منع فرمائیں دور رہیں۔

قال اللہ تعالیٰ ”وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ“ ہم نے تمام رسول اسی لیے بھیجے کہ ان کا حکم مانا جائے، اللہ کی پروا لگی ہے۔

۲۵ ورد کلمہ طیب پر بھی شرک کا مونہ پھیلاتے یہ ہیں تکمیل ۱۱: اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اُس میں اللہ کا نام بھی تو چپنا ہے کہ شرک تو دوسرے کے ملانے ہی کو کہتے ہیں نہ یہ کہ خاص دوسرے ہی کے لیے ہو۔ تقویت الایمان ص ۷۷ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کوئی کچھ میرے واسطے کرے اور غیر کو بھی اُس میں شریک کر دے تو میں اپنا حصہ بھی نہیں لیتا سارے کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار ہو جاتا ہوں۔

۲۶ دم میں کروڑوں ہمسر شہ ہوں ایسی مشین دھراتے یہ ہیں تکمیل ۱۲: یہ حضور کے ان تمام فضائل سے کفر ہے جن میں شرک ناممکن جیسے افضل مخلوقات و خاتم النبیین و سید المرسلین و اول مخلوق و اول شافع و اول مشفق حضور میں یہ فضائل ہوتے تو دوسرا حضور کے برابر ایک بھی نہ ہو سکتا کہ ان میں کوئی فضل دو کو ملنا محال نہ کہ ایک آن میں کروڑوں تو ضرور ہے کہ اس کے نزدیک حضور کے یہ سب فضائل باطل۔

۲۷ معجزے سے بہترے جادو اکمل و اقوی گاتے یہ ہیں تکمیل ۱۳: اقول جب امام الوہابیہ کے دھرم میں معجزے سے کامل و قوی تر عجائب جادو گر دکھا سکتے ہیں پھر معجزے سے نبوت پر یقین کا کیا ذریعہ، یہ فرق کہ نبی بے آلات دکھاتا ہے اور ساحر آلات سے کیا کام دے گا کہ آلات ساحر پر اطلاع کیا ضرور اور جب وہاں بے اطلاع آلات اس سے بڑھ کر دیکھیں تو یہ ساحر پر کیوں نہ ایمان لائیں گے اور اگر باوصف جہل آلات اسے ساحر کہیں تو نبی کو کیوں نہ کہیں گے جیسے ان کے بھائی کہا ہی کرتے۔

۲۸ ساحر قادر لیکن شہ کو پھر محض بناتے یہ ہیں

تکمیل ۱۴: اقول ظاہر ہے کہ سحر حرام ہے اور حلال افعال اختیار یہ ہیں، جو کام انسان کی قدرت ہی میں نہ ہو جیسے نبض کی حرکت وہ حرام نہیں ہو سکتا تو سحر پر ضرور ساحر کو قدرت عطا یہ ہے۔ جیسے کھانے پینے وغیرہ تمام افعال اختیار یہ پر لیکن امام الوہاب یہ نبی کو معجزہ میں عاجز محض بتاتا ہے کہ جو خدا کی دی ہوئی قدرت مانے اسے بھی بے شک کافر مشرک کہتا ہے۔ یہ قرآن عظیم کی صریح تکذیب ہے اسے تو بعد کو ذکر کروں گا پہلے اس کفریہ دہلوی پر گنگوہی رجسٹری کو ذکر کروں یہاں گنگوہی صاحب کے سائل نے شرح مواقف کی عبارت بھی نقل کی تھی جس میں تصریح ہے کہ معجزہ کا قدرت نبی سے ہونا ہی اصح ہے بلکہ بعض جو غیر مقدور کہتے ہیں خود اس قدرت نبی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ قدرت ضرور نبی کی قدرت سے نہیں بلکہ بعطائے الہی ہے تو فعل خارق عادت بالاتفاق قدرت نبی سے ہوا یعنی اہل سنت کے دونوں فریق یا کم از کم اصح قول والے اسمعیل کے نزدیک بے شک کافر مشرک ہیں۔ سائل نے اسی کے مثل شرح مقاصد کی عبارت بتائی اسمعیل کو کتب عقائد سے جو یہ خلاف ہے اس کی نسبت سوال تھا۔ اب اولاً گنگوہی صاحب اسمعیل کا دامن کیا چھوڑیں اہل سنت لاکھ کافر ٹھہریں فرماتے ہیں مولوی اسمعیل کا کہنا حق ہے حاشا یقیناً باطل ہے اہل حق کے نزدیک جیسے بعض معجزے محض فعل الہی سے ہیں بکثرت نبی کے فعل نبی کی قدرت عطا یہ سے ہیں۔

عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ابروی الا کمہ والابرص مادرزاد اندھے اور برص والے کو میں اچھا کر دیتا ہوں اور فرمایا واحی الموتی باذن اللہ میں مردے جلا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے اور فرمایا "وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم" میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے اور جو کچھ گھروں میں ذخیرہ رکھتے ہو، دیکھو یہ مسیح کے افعال ہیں علیہ الصلوٰۃ والسلام تم ان سب آیتوں کے منکر ہو اور تمہارے نزدیک یہ چار شرک مسیح و قرآن دونوں کے ہیں۔

حاشیاً: زور زبان یہ کہ سب ان کے موافق ہیں عبارت مواقف و مقاصد بھی ان کے موافق ہے بجا ہے یہ فرمائیں کہ قدرت نبی سے ہونا ہی اصح ہے وہ کہے جو ایسا مانے یقیناً کافر ہے بھلا اس سے بڑھ کر موافقت اور کیا ہوگی۔

حالت: پھر ایک مہمل تقریر گڑھی جس کا حاصل یہ ہے کہ معجزہ میں نبی مثل قلم ہوتا ہے جیسے کتابت میں قلم بے اختیار محض ہے یوں ہی معجزہ میں نبی۔ فرق اتنا ہے کہ قلم بے عقل ہے اسے کتابت کی خبر بھی نہیں اور نبی اتنا جانتا ہے کہ معجزہ ہو رہا ہے اسی جاننے کو نبی کی قدرت کہا ہے سواس کا اثبات شرح مواقف و مقاصد میں ہے۔ بجا ہے موت کے وقت آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ آپ مر رہے ہیں تو آپ کی موت آپ کی قدرت سے واقع ہوئی اس جاننے کو قدرت کہیں گے۔

رابعاً: پھر کہا مولوی اسمعیل اس کا انکار نہیں کرتے بلکہ قدرت دے کر فارغ ہونا مثل قدرت دیگر افعال کے کہ جب چاہیں کر لیا کریں اس کا انکار ہے وہ صراحتاً مطلق قدرت کا سلب کرتا ہے۔ آپ خود نبی کو نرا قلم بنا رہے ہیں نہ یہ کہ قدرت وقت پردی جاتی ہے نہ ایسی کہ جب چاہیں کر لیں۔

خامساً: یہ اور نیا شگوفہ ہوا کہ افعال عادیہ میں اللہ تعالیٰ بندوں کو قدرت دے کر فارغ ہو گیا یعنی بندہ اب اپنی قدرت سے جو چاہو کرتے رہو میں الگ ہوں، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ کھلا معترزی پن ہے۔

سادساً: اپنا ہی فتاویٰ حصہ اول صفحہ ۲۱ دیکھئے۔

سوال: مولانا روم فرماتے ہیں۔

ہست قدرت اولیا را ازالہ تیر جتہ باز گرداند ز راہ

اس کے مصداق اولیا ہیں یا نہیں؟

الجواب: کرامت اولیا حق ہے جب حق تعالیٰ چاہے اولیا سے کرا دیوے یہی مطلب شعر کا ہے۔ یہاں تو آپ قدرت اولیا پر ایمان لے آئے اور کرامت کو ان کا فعل

مان لیا کرادیوے تو کرنے والے اولیا ہوئے اور کرادینے والا اللہ عزوجل اب وہ اسمعیلی فتوے دیکھیے کہ بے شک مشرک و کافر۔ یہ طویلے میں لتیاؤ کیوں۔ اسے شرک و کفر کی چڑھی ہے آپ لاکھا سے امام مانیں وہ آپ کو بغیر کافر بنائے کب چھوڑتا ہے۔
 سابقاً: یک نشد دوشد اور بھاری کافر مشرک آئے قاسم نانوتی صاحب تحذیر الناس صفحہ ۸ میں فرماتے ہیں معجزہ خاص ہرنی کوشل پروانہ تقرری بطور سند نبوت ملتا ہے اور بنظر ضرورت ہر وقت قبضہ میں رہتا ہے کہ وہ بیگاہ کا قبضہ نہیں ہوتا۔ کہیے قبضہ و قدرت میں کتنا فرق ہے۔

ثامناً: آپ تو اس کے منکر تھے کہ جب چاہیں کر لیا کریں۔ نانوتوی صاحب فرماتے ہیں۔ ہر وقت قبضہ میں رہتا ہے طویلے کی کوئی اینٹ بھی سلامت رکھیے گا۔

تاسعاً: رب عزوجل نے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا "فاضر ب لہم طریقاً فی البحر یبسا" اے موسیٰ تم ان کے لیے دریا میں سوکھا راستہ نکال دو کہ بنی اسرائیل پار ہو جائیں۔

عاشرأ: فرماتا ہے واترک البحر رھوا انھم جند مغرقون ' اے موسیٰ تم دریا کو یوہیں کھلا چھوڑ دینا پار اتر کر پانی ملانہ دینا کہ فرعونی اس میں اتریں اس کے بعد پانی ملے اور وہ ڈوبیں۔

اب اپنی اور اسمعیلی کی خبریں کہیے وہ تو اس کا منکر تھا کہ نبی کو اظہار معجزہ کا حکم دے اور یہاں اللہ تعالیٰ نبی کو حکم ہی دے رہا ہے۔ آپ دونوں نے دونوں آیتوں کی تکذیب کی دریا میں خشک راستہ نکال دینا اور پھر پانی کو پار اترنے کے بعد بھی رکھا رکھنا اگر موسیٰ کو اس کی قدرت نہ دی تھی تو ان کے حکم انھیں کیوں کر فرمائے تمہارے نزدیک قرآن کے دو شرک ہوئے۔

۲۹ شہ کی وجاہت شہ کی محبت زہر کہاں نہیں کھاتے یہ ہیں
 تکمیل ۱۵: مسلمانوں کے ایمان میں انبیا و حضور سید الانبیا علیہم افضل الصلوٰۃ

والثنا ضرور شفیق ہیں اور ضرور بارگاہ الہی میں ان کے لیے عظیم وجاہت ہے اور ضرور ان کی وجاہت کے سبب ان کی سفارش قبول ہے جو وہاں وجاہت نہیں رکھتا اس کا کیا منہ کہ کسی کی سفارش کر سکے۔ ان کی وجاہت کا انکار کفر اور اس کے سبب ان کی شفاعت کا قبول نہ ماننا ضلال، باقی دھوکا دینے کو جو وجاہت کے معنی میں دباؤ کی پتھر لگائی کہ امیر سے دب کر سفارش مان لیتا ہے یہ محض عیاری ہے۔ وجاہت کے معنی میں لغتاً عرفاً شرعاً کہیں اس کا پتا نہیں۔ اقول خود صدیق حسن بھوپالی نے تقویت الایمان کے خلاصہ مسی بہ انفکاک میں وہ دباؤ کی قید نہ رکھی اور صفحہ ۲۰ پر صاف کہا شفاعت وجاہت جس طرح کوئی بادشاہ کسی امیر کی آبرو کے سبب سے اس کی سفارش قبول کر لیتا ہے۔ یہ شفاعت اللہ پاک کی جناب میں ہرگز نہیں ہو سکتی جو کوئی کسی نبی کو اس طرح کا شفیق سمجھے وہ اصلی مشرک ہے۔ اللہ عزوجل عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرماتا ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ دنیا و آخرت دونوں میں وجاہت والا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرماتا ہے وکان عند اللہ وجیہاً۔ اللہ کے یہاں وجاہت والا ہے۔ بیضاوی وارشاد العقول و رغائب الفرقان و مدارک التنزیل وغیرہا میں ہے۔ الوجاہۃ فی الدنیا النبوة و فی الآخرۃ الشفاعۃ دنیا میں وجاہت یہ کہ نبی ہیں آخرت میں یہ کہ شفاعت کریں گے مگر امام الوہاب یہ تو ان کو نانا کارے لوگ، چوہڑے چمار، چمار سے بھی ذلیل، ذرّۃ ناچیز سے کم تر کہتا ہے یہ ان کے لیے وجاہت کیونکر مانے۔

۳۰ شعر مذکور

تکمیل ۱۶: مسلمانوں کے ایمان میں انبیا و حضور سید الانبیا علیہم افضل الصلوٰۃ
 والثنا ضرور محبوب ہیں ان کے غلام تک محبوب ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب تم فرما دو کہ اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو میرے غلام ہو جاؤ اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے اور ضرور ان کی محبوبیت کے سبب ان کی

سفارش قبول ہے۔

اقول: حدیث کا ارشاد دیکھیے کہ جب حضور شفاعت کا سجدہ کریں گے ارشاد ہوگا یا محمد ارفع راسک و قل تطاع اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہو کہو کہ تمہاری اطاعت کی جائے گی، آنکھوں کا اندھا اطاعت کے لفظ کو دیکھے یہ کمالِ محبوبیت کے سبب قبولِ شفاعت نہیں تو اور کیا ہے ان کی محبوبیت کا انکار کفر اور اس کے سبب ان کی شفاعت کا قبول نہ ماننا ضلالِ باقی دھوکا دینے کو لا چاری کی قید بڑھانی کہ محبت سے لاچار ہو کر تقصیر معاف کر دے وہی بے ایمانی ہے۔

اقول: دنیوی بادشاہوں کے یہاں بھی وجاہت و محبت دینے اور لا چاری کو مستلزم نہیں اگرچہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے گمراہ نے اولاً اس واحد قہار کو ان پر قیاس کیا۔ ثانیاً ان سے بھی گھٹا کر وہاں یہ حصر بڑھا لیا کہ اس کے یہاں وجاہت یا محبت کے باعث شفاعت قبول ہوئی تو دباؤ یا لا چاری ہی سے ہوگی۔ ثالثاً عن قریب آتا ہے کہ اس کے دھرم میں اس کے معبود کا دینا لاچار ہونا سب کچھ روا ہے پھر کس منہ سے ایسا ماننے پر یہ مشرک مشرک بگھارتا ہے۔

۳ اصل شفاعت شہ سے ہیں کافر نام کو لفظ دکھاتے یہ ہیں تکمیل ۷: ۱: مسلمانوں کو دھوکے دینے کے لیے شفاعت بالاذن کا ماننا ظاہر کیا شفاعت بالوجاہة و بالمحبة اس کے مقابل نہیں بلکہ وہی شفاعت بالاذن ہے مگر اس نے اس کے وہ معنی گڑھے کہ شفاعت کا خالی لفظ رہ گیا حقیقت اڑ گئی تاکہ انکار تو منہ بھر کر ہو اور جاہلوں کے چھلنے کو ہو جائے کہ ہم منکر نہیں اس میں یہ قیدیں بڑھائیں صفحہ ۳۸ (۱) وہ ہمیشہ کا چور نہیں (۲) چوری کو اس نے پیشہ نہیں ٹھہرایا نفس کی شامت سے قصور ہو گیا (۳) سواں پر شرمندہ ہے (۴) اور رات دن ڈرتا ہے۔

مسلمانو! گنہگار کی شفاعت میں کلام ہے وہ جس سے نادراً ایک آدھ گناہ ہو گیا اور عمر بھر کے اعمال اچھے پھر اس اتفاق گناہ پر بھی شرمندہ اور رات دن ڈرتا ہے اور نبی صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث صحیح میں فرماتے ہیں السندم توبة شرمندہ ہونا توبہ ہے اور جب وہ رات دن ڈر رہا ہے۔ ضرورتاً تب ہو اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث صحیح میں فرماتے ہیں "التائب من الذنب کمن لا ذنب له" جس نے گناہ سے توبہ کی وہ بے گناہ کے مثل ہے ایسا شخص گنہگار ہو گا یا اعلیٰ درجے کے متقیوں میں شمار ہو گا اور لمن خاف مقام ربہ جنتن دوہری جنتوں کا سزاوار ہو گا۔ اس نے توبہ کبھی اور خود حضور شافع المرذبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح سنیے فرماتے ہیں "أترونها للمؤمنین المتقین لا ولكنها للمذنبین المتلوثین الخطائین" کیا میری شفاعت سترے مؤمنوں کے لیے خیال کرتے ہو۔ نہیں بلکہ وہ گنہگاروں آلودہ روزگاروں سخت خطا کاروں کے لیے ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ نے ابو موسیٰ اشعری اور امام احمد نے بسند صحیح اور طبرانی نے بہ سند جید عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی۔

اقول: مسند ابوداؤد و طیالسی میں امام جعفر صادق سے ہے وہ امام باقر سے راوی وہ حضرت جابر بن عبد اللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم "قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعتی لاهل الکبائر من أمتی قال فقال لی جابر من لم یکن من اهل الکبائر فما له وللشفاعة" رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں حضرت جابر نے یہ حدیث مجھ سے بیان کر کے فرمایا جو کبیرہ گناہوں والا نہیں اسے شفاعت سے کیا علاقہ۔ دیکھو جس کے لیے فرضی شفاعت کا یہ شخص مقرر ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وائمہ دین صاف فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نہیں اور جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت بتاتے ہیں یہ شخص صاف منکر ہوا کہ ان کے لیے نہیں تو فرضی کے اقرار کا نام لیا اور واقعی سے صاف انکار کر گیا پھر فریب یہ کہ ہم کیا شفاعت کے منکر ہیں۔ قاتلہم اللہ انی

یؤفکون۔ مطلب بھی سمجھے غرض یہ ہے کہ عام مسلمانوں کا تعلق قلبی ان کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قطع کرے وہ ان سے ناامید ہو بیٹھیں اور سمجھ لیں کہ وہ ہمارے کچھ کام نہ آئیں گے مگر الحمد للہ مسلمان اس کے بڑے کے دھوکے میں تو آئے نہیں اس کے چھلنے سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن معاذ اللہ چھوڑ دیں گے حاشا۔

۳۲ اس میں بھی تخصیص ان کی نہیں کچھ مہمل گول گڑھاتے یہ ہیں تکمیل ۱۸: اہل حق کے ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کے لیے متعین ہیں بے ان کے کوئی دروازہ نہیں کھول سکتا بلکہ اوروں کی شفاعت حضور کے سامنے ہے اور بارگاہِ عزت میں شفیع حضور، انا صاحب شفاعتہم ولا فخر، دہلوی نے جو مسلمانوں کا جی رکھنے دھوکا دینے کو جھوٹی ناشدنی شفاعت کا اقرار کیا اس میں بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت نہ رکھی حضور کا نام پاک تک نہ لیا بلکہ جس کو چاہے گا بنا دے گا۔ یہ ان متواتر حدیثوں کی تکذیب ہے جن میں بالخصوص حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شفاعت کے لیے متعین ہونا مذکور ہے ازاں جملہ حدیث صحیحین ”اعطیت خمساً لم يعطهن احد من الانبياء قبلي (الی قولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) واعطیت الشفاعۃ“ مجھے پانچ چیزیں عطا ہوئیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملیں ان میں سے ایک یہ کہ مجھے شفاعت کا منصب عطا ہوا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مطلب بھی سمجھے وہ جو لاکھوں میں دو ایک ان سخت شرطوں کے نکلیں جن کے لیے شفاعت کا اس نے زبانی جھوٹا اقرار کیا ہے۔ اب انھیں کہتا ہے کہ تم اپنے محمد سے لو نہ لگاؤ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) شفاعت میں کچھ ان کا اجارہ نہیں خدا جسے چاہے گا شفیع بنا دے گا۔

۳۳ بیٹی تک کے نہ کام آئیں گے بے قدری یہ مناتے یہ ہیں تکمیل ۱۹: یہاں دل کی کھول دی شفاعت کی پوری آخری بول دی جب صاحبزادی

تک کے کام نہ آئیں گے تو دوسرے کا کیا منہ ہے کہ ان سے کچھ امید رکھے واقعی جب ناکارے لوگ کہہ دیا پھر کام آنا کیا معنی۔

اقول: اور یہ اس کا اللہ و رسول پر افترا ہے کہ حضور نے فرمایا میں آپ کو ڈرتا ہوں دوسرے کو کیا بچا سکوں اور اللہ نے اس فرمانے کا حضور کو حکم دیا ہرگز نہ آیت میں ہے نہ حضور نے فرمایا۔ وہ عظیم الشان حدیثیں ہر مسلمان کے گوش زد ہیں کہ سب انبیاء نفسی فرمائیں گے اور حضور انا لہا میں ہوں شفاعت کے لیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اقول: اور آیت میں خیانت کی اس کے متصل جو استثنا فرمایا الا بلغاً من اللہ و رسلہ اسے ہضم کر لیا۔

۳۴ سب کے برابر عاجز و ناداں کار جہاں میں بتاتے یہ ہیں تکمیل ۲۰: اس ضلالت کے رد کتاب الامن والعلی و کتاب سلطۃ المصطفیٰ میں دیکھیے جن میں روشن ثبوت ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عزوجل کے نائب مطلق ہیں زمین و آسمان اور دونوں جہان میں حضور کا تصرف جاری ہے ہر نعمت حضور ہی کے ہاتھ سے ملتی ہے اور جو کچھ شرح نعت شریف میں ابھی گذرا مسلمان کے سمجھ لینے کو بس ہے کہ حضور اقدس انور خلیفہ اعظم رب اکبر جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم و وسیع اختیارات کی نسبت ائمہ دین کا کیا ایمان اور گستاخ بدوین کا کیا بہتان۔ لیکن جو مصطفیٰ کو نہ مانے ان کا ماننا محض خط اور ہر حرام سے بدتر جانے وہ ائمہ کو کیا مانے، اچھا قرآن کا تو نام لیتے ہیں سر دست اسی کی تین آیتیں سنئے۔

آیت ۱: اغنہم اللہ و رسولہ من فضلہ، ان کو غنی کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے۔

آیت ۲: ولو انہم رضوا ما اتہم اللہ رسولہ وقالوا حسینا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ و رسولہ۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ راضی ہوتے اس پر جو انھیں اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا بخشی اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے اب ہمیں دیتے ہیں اللہ و

رسول اپنے فضل سے۔

آیت ۳: عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ابری الا کمہ والابرص واحی الموتیٰ باذن اللہ، میں اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے اور برص والے کو اور میں زندہ کرتا ہوں مردے اللہ کے حکم سے۔

اقول: کیا محتاج اور وہ جنھوں نے اُسے غنی کر دیا، حاجت والے اور وہ جس سے لو لگائے رہنے کا اُنھیں حکم ہے کہ اب ہمیں وہ عطا فرمائیں گے۔ مادرزاد آندھا اور وہ جو اُسے آنکھیاں کر دیتے ہیں۔ برص والا اور وہ جو اسے شفا دیتے ہیں۔ مردہ اور وہ جو اُسے زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ سب یکساں عاجز ہیں اور بے اختیار۔ اور اگر نرے عاجز بے اختیار بھی یہ کام کر سکتے ہیں (اگرچہ ایسا نہ کہے گا مگر مجنوں) تو اولاً محتاج و مریض و اموات خود ہی کیوں نہ غنی و تندرست و زندہ ہو جاتے یہ بھی تو آخر ان کے برابر ہی کے ہیں۔ ثانیاً تم خود بھی تو ان کے برابر کے ہو کہ بندوں سے باہر نہیں انھوں نے مردے جلانے تم ایک بال تو اُکھیڑ کر جمادو۔ اور اگر کہو کہ ان کو یہ اختیار اللہ نے دیئے تو اقول اولاً تمہارا امام یہ شاخشا نہ مانتا ہی نہیں وہ دیکھو تقویت الایمان صفحہ ۱۱ ”خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود دے خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی قدرت بخشی ہے ہر طرح شرک ثابت ہے۔“ ثانیاً جب اللہ نے انھیں اختیار دیا اور ان کو نہ دیا تو دیئے بے دیئے برابر کیسے ہو گئے۔ اللہ کا دینا بھی معاذ اللہ محض بے کار گیا کوئی اندھے سے اندھا بھی بادشاہ مالک خزان اور ایک بھیک منگے کو نہ کہے گا کہ دونوں یکساں بے زر ہیں اور نادار اگرچہ ان کے پیٹ سے وہ بھی نہ لایا۔ بات یہ ہے کہ وہابی ایمان کی دولت سے خالی اور دل کا مادرزاد اندھا ہے اسے نہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کی دولت عطا کی نہ مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے آنکھیاں کیا پھر وہ کیونکر ان کے اختیارات پر ایمان لائے اندھا جب پتائے کہ دو آنکھیں پائے۔

۳۵ شعر مذکور

تکمیل ۲۱: غنیمت ہے کہ سب کے برابر ہی نادان کہا گنگوہی نے تو اس وسعت علم میں خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لاکھوں درجے ابلیس ملعون سے گھٹا رکھا ہے۔ جیسا کہ عن قریب بیان عقائد گنگوہیہ میں آتا ہے۔ اس ضلالت کے قاہر رد کتاب انباء المصطفیٰ و کتاب جلیل الدولة المکیہ و کتاب خالص الاعتقاد میں دیکھیے جن میں روشن ثبوت ہیں کہ روزِ اوّل سے روزِ آخر تک کے ذرے ذرے کا علم حضور کو عطا ہوا۔ تمام جہان حضور کے پیش نظر ہے۔ دلوں کے خطروں سے آگاہ ہیں۔ سردست یہی چار آیتیں سینے:

آیت ۱: علم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا O الا من ارتضیٰ من رسول۔ اللہ غیب کا جاننے والا ہے تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوا اپنے پسندیدہ رسول کے۔

آیت ۲: و علمنہ من لدنیٰ علما ہم نے خضر کو اپنے خاص غیب کا علم دیا۔

آیت ۳: وما ہو علی الغیب بضنین۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب کے بتانے میں بخیل نہیں۔

آیت ۴: وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن اللہ یجتبیٰ من رسلہ من یشاء۔ اللہ اس لیے نہیں کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہے۔ دیکھو اللہ عز و جل تو رسولوں اور عام لوگوں میں علم غیب کا فرق فرماتا ہے اور یہ کہتا ہے سب یکساں نادان اقول قرآن نے بتایا کہ فرق کے لیے اپنی ذات سے ہونا ضرور نہیں، نہ دیئے بے دیئے یکساں ہو سکیں۔ کیا ایک جاہل اجہل کہ الف کے نام بے نہ جانے اور صدیق اکبر برابر کے جاہل ٹھہریں گے کہ صدیق کا علم بھی ذاتی نہیں۔ غرض ہر جگہ اس شخص کو دو کام ہیں۔ قرآن کی تکذیب اور رسولوں کی توہین واللہ لا یہدی القوم الظلمین۔

۳۶ نایب اکبر قادرِ کل کو پتھر کا شہراتے یہ ہیں
 تکمیل ۲۲: اقوال اللہ عزوجل آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرشتوں سے فرماتا ہے
 انی جاعل فی الارض خلیفۃ بے شک میں زمین میں نایب مقرر کرنے والا
 ہوں اور فرماتا ہے ید اؤد انا جعلنک خلیفۃ فی الارض اے داؤد بے شک
 ہم نے تمہیں زمین میں نایب مقرر کیا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ قدرت والے کا نایب
 کام کریگا۔ اس کی طاقت اسے دی جائے گی جسے نہ کسی کام میں دخل نہ اس کی طاقت
 وہ پتھر ہوگا اور پتھر پتھر ہی کا نایب ہو سکتا ہے نہ کہ قادر کا۔ تو یہ صرف انبیا کی نہیں بلکہ
 ان کے رب کی تو ہیں ہے۔

۳۷ پتھر سے بھی بدتر لاشے محض پہ ٹھیکا کھاتے یہ ہیں
 تکمیل ۲۳: اقوال اولاً: امام الوہابیہ نے تمام امتِ مرحومہ کو مشرک ٹھہرایا۔ مسلمانو! تم
 میں کوئی ایسا ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نفع کی امید نہ رکھتا
 ہو۔ ثانیاً شاہ ولی اللہ کے مشرک ہوئے جن کے اقوال شرح نعت مبارک میں
 گزرے۔ ثالثاً اس نے تو یہ کہا لیکن قرآن کریم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم سے لو لگی رکھنے کا حکم دیا کہ اب ہمیں اپنے کرم سے عطا فرماتے ہیں۔ آیت نمبر
 ۳۴ میں گزری اس کے نزدیک یہ قرآن عظیم کا شرک ہے۔ قرآن تو شرک سے پاک
 ہے۔ یہی مشرک ہے جس کا بیان نمبر ۶ میں ہوا۔ اس کا معلم نجدی خبیث تو یہی کہتا تھا
 کہ میری لکڑی محمد سے زیادہ فائدے کی ہے (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) جس سے یہ
 نکل سکتا کہ کچھ فائدہ ان سے بھی ہے۔ اگرچہ ایک لکڑی کے فائدے سے کم مگر اس
 نے اصلا لگی نہ رکھی۔ مطلقاً ان سے نفع کی امید شرک کر دی۔ کوئی دھوکا باز بے ایمان
 یہاں یہ کہے گا کہ بالذات بے عطائے خدا نفع رسانی کی نفی مراد ہے۔ اقوال مگر اللہ
 دعا بازوں کو راہ نہیں دیتا۔ اولاً امید کے لیے بے عطائے الہی نافع ہونے کی کیا
 ضرورت ایک محتاج جہاں سے تنخواہ پائے گا اس کی امید رکھے گا۔ ثانیاً وہ بددین تو

صاف کہہ چکا کہ ان کو اللہ نے کچھ قدرت نہ دی، نہ فائدہ پہنچانے کی نہ نقصان
 کر دینے کی۔ تقویت الایمان صفحہ ۷۔ تو صراحتاً عطائی کا منکر ہی اور یہ کھلا کفر ہے۔

۳۸ جن کا چاہا خدا کا چاہا ان کا چاہا مٹاتے یہ ہیں
 تکمیل ۲۴: امام الوہابیہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے کو یوں
 معطل محض کیا۔ اب احادیث سینے صحیحین میں ہے اُم المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہا حضور سے عرض کرتی ہیں ما اری ربک الا یسارع فی ہواک میں حضور
 کے رب کو حضور کی خواہش میں جلدی ہی کرتا دیکھتی ہوں۔ یعنی جو حضور چاہتے ہیں
 جلد وہی کر دیتا ہے۔ اقوال ابن عدی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ابو طالب نے
 سرکار میں عرض کی ان ربک لیطیعک بے شک حضور کا رب حضور کی اطاعت
 کرتا ہے۔ فرمایا وانت یا عماہ لو اطعته لیطیعک اے چچا اگر تم اس کی
 اطاعت کرو تو وہ تمہارا چاہا نہ ڈالے۔ حاکم مستدرک میں عبادہ بن صامت رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ سے راوی جب حضور روز قیامت سجدہ شفاعت کریں گے۔ ارشاد ہوگا یا
 محمد ارفع رأسک وقل تطاع اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور جو کہتا ہو کہ تمہاری
 اطاعت کی جائے گی۔ بجز الاسرار شریف میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ سے ہے رب عزوجل نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا لا یكون
 فی الآخرة الا ما ترید آخرت میں وہی ہوگا جو تم چاہو۔ امام قسطلانی کا ارشاد شرح
 نعت مبارک میں گزرا کہ عالم میں کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے اور
 کوئی نعمت کسی کو نہیں ملتی مگر حضور کی سرکار سے۔ حضور جو چاہیں اس کا خلاف نہیں
 ہوتا۔ نہ تمام عالم میں کوئی ان کے چاہے کو پھیرنے والا۔ شرح شفاء امام قاضی عیاض
 سے گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عالم میں تنہا حاکم ہیں اور جہاں بھر
 میں کسی کے محکوم نہیں۔ یہ ہیں مسلمانوں کے اعتقاد۔

۳۹ کیا ہر بار نبی و ولی سے شیطان بھوت ملاتے یہ ہیں

مکمل ۲۵: تفویت الایمان صفحہ ۹۔ اس بات میں اولیا انبیاء جن شیطان بھوت میں کچھ فرق نہیں۔ ایضاً خواہ انبیاء اولیا سے کرے خواہ بھوت پری سے صفحہ ۱۱ خواہ یہ عقیدہ انبیا اولیا خواہ بھوت پری سے ایضاً کسی انبیا اولیا بھوت کی یہ شان نہیں۔ صفحہ ۱۲ جو کوئی کسی پیر پیغمبر بھوت پری کو صفحہ ۱۳ کسی انبیا اولیا بھوت پری کی صفحہ ۲۵ جو کوئی کسی نبی ولی نجومی رمال برہمن اشٹی بھوت پری کو ایسا جانے صفحہ ۴۳ پیغمبر کو پکارے، پری کو مایے، نجومی رمال سے پوچھیے صفحہ ۵۰ کسی کی قبر یا جگہ یا تھان پر دور سے قصد کرنا صفحہ ۵۱ نام کا کردی ولی نبی بھوت پری کا صفحہ ۶۱ عورتوں کا تصور باندھتے ہیں۔ کوئی حضرت نبی کا نام ٹھہرا لیتا ہے، کوئی نبی آئیے، کوئی لال پری، سیاہ پری، سیتلا مسانی کالی صفحہ ۶۲ کوئی نام رکھتا ہے نبی بخش، علی بخش، سیتلا بخش، گنگا بخش۔

۴۰ جو آیات بتوں میں ہیں ان کو محبوبوں پہ جھاتے یہ ہیں مکمل ۲۶: پکارنا، مدد مانگنا وغیرہ امور متعلقہ بہ انبیا و اولیا و خود حضور سید الانبیا علیہ و علیہم افضل الصلاۃ والسلام کے شرک بنانے کو وہ آیتیں لایا جو بتوں میں اتری مثلاً آیت ۱، صفحہ ۷ یعبدون من دون اللہ مالا یفعلہم ولا یضرہم و یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ قل اتنبون اللہ بما لا یعلم فی السموات ولا فی الارض سبحنہ وتعلی عما یشر کون اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں فائدہ پہنچا سکے، نہ نقصان اور کہتے ہیں یہ اللہ کے یہاں ہمارے شفیع ہیں۔ اے محبوب تم فرما دو کیا اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں۔ پاکی و بلندی ہے اللہ کو ان کے شرک سے اقول یہ آیت کریمہ ولیدد عاص وغیرہما مشرکین مکہ کے بارے میں اتری جس میں دو ارشاد ہیں (۱) یہ کہ بت کو پوجتے ہیں جو بے جان، بے حس ہے۔ کسی طرح کا نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا (۲) یہ کہ اسے اللہ کے یہاں اپنا شفیع مانتے ہیں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے سارے ملک میں کوئی بت اس قابل نہیں کہ شفاعت کر سکے۔ اس شخص نے

ایک تو پوجنے کا پکارنا بنایا، دوم مرجع ضمیر یعبدون بت پرستوں سے توڑ کر عام لوگوں کو بتایا۔ سوم ما سے مراد غیر ذوی العقول بت تھے اسے عام کر لیا کہ یعنی جن کو لوگ پارتے ہیں ان کو اللہ نے کچھ قدرت نہ دی۔ یہ تین تحریریں کیں تاکہ آیت میں بتوں کے ساتھ انبیا و اولیا اور بت پرستوں کے ساتھ ان سے مدد مانگنے والے مسلمانوں کو ملالے کہ پکارنا تو ان کا بھی ہوتا ہے تو مطلب یہ ٹھہرا کہ انبیا و اولیا بتوں کی طرح ہیں۔ اصلاً کچھ نفع نقصان پہنچانے کے قابل نہیں۔ نہ اپنی ذات سے نہ خدا کے دیے سے کہ اللہ نے کچھ قدرت ہی نہ دی۔ یہ صریح کفر ہے حالانکہ اولاً ہر سمجھ وال بچہ تک جانتا کہ آدمی بلکہ جانور بھی نفع نقصان دیتا ہے۔ تفسیر عزیز می میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے تو فرعون کو مالک نفع و ضرر لکھا مگر اس کے نزدیک انبیا اس سے بھی گئے گزرے۔ ثانیاً اللہ عزوجل فرماتا ہے: یزکیہم ویعلمہم الکتب والحکمۃ یہ نبی مسلمانوں کو پاک کرتے ہیں انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ یہ کچھ نفع پہنچانا نہ ہوا۔ چہارم یہ تحریفات و تعمیمات کر کے دوسرے ارشاد کو بھی اس میں ملا لیا کہ اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں سو یہ بات اللہ نے تو نہیں بتائی۔ آیت نے تو بتوں کی شفاعت کی نفی فرمائی تھی یہاں جن جن کو پکارنا ہوتا ہے کہ ان میں انبیا و اولیا بھی داخل سب کی شفاعت باطل ہوگئی۔ یہ کھلا کلمہ کفر ہے۔ پنجم آئیے کریمہ کے ارشاد دوم میں دوسرا پلٹا لیا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام آسمانوں زمین میں کوئی ایسا سفارشی نہیں کہ اس کو مانے اور اس کو پکارے تو کچھ فائدہ یا نقصان پہنچے۔ اولاً اللہ عزوجل پر صریح اقرار آیت میں دوسلہ کلی تھے ارشاد اول میں بتوں کے نفع و ضرر کا دوم میں بتوں کی شفاعت کا۔ یہ سلب کلی کہ کوئی ایسا سفارشی نہیں کہاں تھا۔ ثانیاً اس کی تحریفوں پر بھی صرف ان سے سلب نکلے گا جن کو پکاریں سلب کلی کس گھر سے لائے گا۔ حالاً آیت میں چوتھی تحریف یہ کی کہ اس کے دونوں سلب کلی کہ جدا جدا دو حکم تھے ان میں اول کو دوم کی قید بنا لیا۔ اللہ عزوجل نے تو مطلقاً ان کے فائدہ و نقصان کی نفی

فرمائی پھر مطلقاً ان کی شفاعت کی کہ جس چیز کو پوجتے ہیں اس میں نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں نہ وہ شفیع۔ اس نے یہ بنا لیا کہ وہ ایسے شفیع نہیں کہ ان کے پکارنے سے کچھ فائدہ پہنچے تو بتوں کی مطلقاً شفاعت سے انکار نہ ہوا۔ رابعاً ان کی مطلق نفع رسانی سے بلکہ حاصل یہ ہوا کہ ان کا پکارنا مفید نہیں اگرچہ وہ بے پکارے کتنے ہی بڑے شفیع اور کیسے ہی عظیم نفع رساں ہوں۔ خامساً فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان ملا لیا۔ کیا کوئی کسی کو اپنے نقصان کے لیے پکارتا ہے۔ یہ معنی آیت کی تخریب ہوئی۔ یہ مراد ہوتی تو آیت میں صرف لا ینفعہم ہوتا ولا یضرہم نہ فرمایا جاتا۔ سیادساً پھر کہا انبیا واولیا کی سفارش جو ہے سوا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس نے آیت میں تعمیم کی اس سے یہ فائدہ اٹھایا کہ انبیا واولیا داخل ہو گئے مگر بحال تعیم بھی بت اس سے خارج تو نہ ہوئے۔ آیہ کریمہ نے ان کی شفاعت کی مطلق نفی فرمائی تھی اس نے یہ پیوند لگا لیا کہ وہ شفاعت جو خدا کے اختیار میں نہ ہو تو بتوں کی شفاعت بالاذن کی نفی نہ ہوئی۔ سابعاً خدا کے اختیار میں ہونے سے ماننے اور پکارنے کا نفع کیسے سلب ہو گیا۔ کیا نفع جہی ملتا ہے کہ خدا کے اختیار سے باہر ہو۔ غرض سارا کام قرآن کی تحریف اور انبیا کی توہین ہے۔ مسلمانو! دیکھا ایک ہی آیت سے استدلال میں کتنی بے ایمانیاں کی ہیں۔ اس پر گنگوہی صاحب فرماتے ہیں استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ و احادیث سے ہیں فتاویٰ حصہ اول صفحہ ۱۲۲۔ کتاب اللہ و احادیث سے ایسے استدلال تو آریہ بھی کرتے ہیں کہ تحریفیں کر کے مطلب کو بالکل کا یا پلٹ کر دیا تو ان کی کتاب کو بھی کہہ دینا کہ اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے۔ آیت ۲ صفحہ ۲۸ ومن اضل ممن یدعوا من دون اللہ من لا یتستجیب لہ الی یوم القیمۃ وہم عن دعائہم غافلون۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے کو پکارے جو قیامت تک جواب نہ دے۔ نہ انھیں ان کے پکارنے کی خبر۔ یہ آیت اپنے کھلے لفظوں سے بتوں کے حق میں ہے کہ وہ نہ بات سنیں، نہ جواب دے

مکیں۔ بزعم خود انبیا واولیا پر جمانے کے لیے یہ پیوند لگا لیا کہ دور دور سے پکارتے ہیں۔ آیت تو مطلقاً نفی فرما رہی تھی کہ پکارنے ہی سے غافل اور جواب کے ہی ناقابل ہیں تو اس میں دور سے پکارنا کہاں تھا۔ آیت ۳، صفحہ ۳۵ ولا تدع من دون اللہ ما لا ینفعک ولا یضرک نہ پوج اللہ کے سوا اس بے عقل چیز کو جو تجھے نہ کچھ نفع دے سکے، نہ نقصان۔ اس کا حال ابھی گزرا کہ آدمی کیا جانور تک نفع نقصان پہنچاتا ہے تو آیت خاص بتوں میں ہے مگر اس نے اپنے مطلب کی سند بنا کر انبیا کو ناکارے لوگ ٹھہرا دیا جس کی عبارت نمبر ۷ میں ہے آیت ۴ صفحہ ۶۰ ان یدعون من دونہ الا انا فایہ تو اللہ کے سوا نہیں پوجتے مگر عورتوں کو۔ یہ بتوں میں بھی خاص عرب کے بتوں میں ہے۔ مشرکین عرب ان کے زنانے نام رکھتے۔ لات، مناتہ، عزی اور ہر قبیلہ کے بت کو اثنی ابن فلاں کہتے۔ فلاں قبیلے کی مادہ یا ان کی دہبی یہ عام کیونکر ہو سکتا ہے کیا اس کے نزدیک مسیح و عزیر علیہا الصلاۃ والسلام بلکہ اس کے ملعون دھرم میں تمام انبیا واولیا مادہ ہیں جو حصر صادق آئے کہ وہ تو صرف مادہ ہی کو پکارتے ہیں۔ حضرت بی بی، بی بی آسیہ ان میں گنائیں کیا انہیں ماننے والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و امیر المؤمنین علی و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نہیں مانتے جو اس حکم میں داخل ہوں۔ صفحہ ۶۱ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو۔ آیہ کریمہ میں حصر تھا فائدے میں اسے اڑا دیا کہ اپنے خیال میں عورتوں کا تصور باندھتے ہیں۔ حضرت بی بی، بی بی آسیہ، سینتلا مسانی کالی یہ تو یہاں کے بت پرستوں میں بھی نہیں کہ کالی وغیرہ کے سوا مہادیو وغیرہ کو بھی پوجتے ہیں بالجملہ اس کی تمام سعی یہ رہی کہ جیسے بنے اللہ کے محبوبوں کو بت اور بھوت اور شیطان سے ملائے اور ان کی محبت و تعظیم پر سچے مسلمانوں کو کافر مشرک ابو جہل کے برابر بنائے لہذا چھانٹ چھانٹ کر بتوں، بت پرستوں کی آیتیں انبیا و غلامان انبیا پر ڈھالتا ہے۔ یہ ملعون کام خارجیوں لعینوں سے سیکھا ہے۔ صحیح بخاری شریف، باب قتال الخوارج والملحدین میں ہے کان

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یراہم شرار خلق اللہ وقال انہم انطلقوا الی ایت نزلت فی الکفار فجعلوها علی المسلمین۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خارجیوں کو تمام مخلوق سے بدتر جانتے تھے کہ انہوں نے وہ آیتیں جو کافروں کے بارے میں اتریں مسلمانوں پر ڈھالیں۔ کہیے اس حدیث صحیح بخاری کی شہادت سے دہلوی صاحب بدترین خلائق سے ہوئے یا نہیں۔

۲۱ شانِ جلالِ حبیبِ حق کو سلب حواس بناتے یہ ہیں
مجمیل ۲۷: ایک اعرابی کی زبان سے انجانی میں جو یہ لفظ نکلا کہ ہم اللہ کو حضور کی جناب میں شفیع لاتے ہیں اور اس پر شانِ جلالِ طاری ہوئی اور فرمایا افسوس تجھ پر۔ اللہ کی شان اس سے بڑی ہے کہ اسے کسی کے سامنے شفیع بنا سکیں۔ بے ادب بد حواس اسے یوں بیان کرتا ہے کہ مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے۔

۲۲ حمد کرے حق مدح نبی سے قدح سے قدر بڑھاتے یہ ہیں
مجمیل ۲۸: قرآن عظیم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و تعظیم سے رب عزوجل کی حمد کرتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولاً منہم یتلو علیہم ایتہ و ینزکیہم و یعلمہم الکتب و الحکمۃ و ان کانوا من قبل لفی ضلل مبین O و اخرین منہم لما یلحقوا بہم و ہوا العزیز الحکیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اللہ وہ ہے جس نے بے پڑھوں میں انہیں میں سے ایک عظمت والے رسول بھیجے کہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتے اور وہ رسول انہیں پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں اور بے شک وہ ان سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور یہ رسول ان میں سے اوروں کو پاک کریں گے اور علم عطا فرمائیں گے جو ابھی نہیں آئے

ہیں اور اللہ ہی عزت و حکمت والا ہے۔ اس رسول کی غلامی ملنی اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تبرک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیكون للعلمین نذیراً بڑی برکت والا ہے وہ جس نے قرآن اتارا اپنے بندے پر کہ وہ سارے جہان کو ڈرسانے والے ہوں سبطن الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من ایتنا انہ هو السميع البصیر پاکی ہے اسے جو رات میں لے گیا اپنے بندے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حرمت والی مسجد سے بیت المقدس تک جس کے گرد ہم نے برکت رکھی کہ انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سنتے دیکھتے ہیں کہ ان کا سا سننا دیکھنا کسی کو نہ ملا۔ مسلمان اس طریقہ حمد الہی کو دیکھیں جو ان کے رب کا ہے اور تقویت الایمان کی روش دیکھیں صفحہ ۱۶ ہر مخلوق بڑا ہوا یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ ایضاً ذلیل سے ذلیل جیسے ایک چمار صفحہ ۲۲ پھر کسی چوہڑے چمار کا کیا ذکر صفحہ ۳۰ سب بڑے چھوٹے برابر عاجز بے اختیار بے خبر نادان صفحہ ۳۵ ناکارے لوگ صفحہ ۵۲ مختار اللہ ہے محمد کسی چیز کا مختار نہیں۔ صفحہ ۷۲ اللہ کی شان بہت بڑی ہے سب انبیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے کمتر۔ گنگوہی صاحب فتاویٰ حصہ اول، صفحہ ۸۶ میں اس کا عذر لکھتے ہیں اس عبارت سے مراد حق تعالیٰ کی بے نہایت بڑائی ظاہر کرنا ہے یعنی اس کی بے نہایت بڑائی کا بیان کرنا خود اسے نہ آیا کہ قرآن کریم میں اپنے محبوب کی عظمتوں سے اپنی عظمت ظاہر فرمائی بلکہ اس کی بے نہایت بڑائی یوں ظاہر ہوگی کہ اس کے محبوبوں کی بے نہایت برائی کرو، ذرہ ناچیز سے کمتر کہو، بھنگی چمار سے ذلیل کہو۔ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔

۲۳ رب دیتا ہے رسل کو تسلط بے قابو ٹھہراتے یہ ہیں
مجمیل ۲۹: کسی کو کسی کے قابو میں نہ دینا تو امام الوہابیہ کا صریح جھوٹ ہے وہ بھی اللہ

عزوجل پر ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، تیل، بکری وغیرہ جانور آدمی کے قابو میں دیے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ وذللتنا لهم فمناہر کوبہم ومنہا یأکلون ہم نے چوپایوں کو انسان کے لیے مسخر فرمادیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ رعیت بادشاہ کے قابو میں دی ہے۔ محکوم حاکم کے، اولاد ماں باپ کے، عورت شوہر کے۔ قال تعالیٰ الرجال قوامون علی النساء شاید خاص انبیاء کے قابو سے انکار ہو کہ اس کے حملے انہیں پر ہیں۔ تو سنیے اللہ عزوجل فرماتا ہے ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدید اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے مسلط فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اقول تتمہ آیت میں رسولوں کی وسعت قابو کا ایما ہے۔ قابو دینے والا اتنی ہی چیز پر قابو دے سکتا ہے جو خود اس کے قابو میں ہے اور اللہ کی نہ قدرت محدود، نہ مشیت تو وہ تمام زمین و آسمان کی سلطنت رسولوں کے قبضہ میں دے سکتا ہے۔ خیر یہ تو ایمانی نگاہوں کے لیے ہے۔ اتنا تو بدیہی کہ اللہ تعالیٰ بعض اشخاص کو رسولوں کے قابو میں دیتا ہے پھر امام الوہابیہ کا کہنا کہ کسی کو کسی کے قابو میں نہیں دیتا یہ آیتوں کی تکذیب ہوایا نہیں۔

۳۴ شہ کے حضور قیام ادب کو شرک بھون میں بٹھاتے یہ ہیں
تکمیل ۳۰: امام الوہابیہ نے پہلی عبارت میں تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو شرک کہا حالانکہ اختیار شرح مختار ولباب المناسک و مسلک متقسط و فتاویٰ عالمگیریہ وغیرہ بکتب معتمدہ میں ہے: یقف کما یقف فی الصلاة روضہ انور کے حضور اس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جیسا نماز میں کھڑا ہوتا ہے منک و مسلک کے لفظ یہ ہیں قام تجاہ الوجہ الشریف خاضعا خاشعا واضعا یمینہ علی شمالہ چہرہ انور کے مقابل کھڑا ہو خشوع و خضوع کے ساتھ، داہنا ہاتھ بائیں پر باندھے ہوئے۔ دوسری عبارت میں ہاتھ باندھنے کی قید بھی اڑادی۔ تراویح سے کھڑا رہنا ہی شرک ہو گیا۔

۳۶ طیبہ کے جنگل کے ادب پر کیا زنجیریں تڑاتے یہ ہیں
خود فرمان رسول اللہ پر حکم شرک چڑھاتے یہ ہیں
ان کی بات تو وحی خدا ہے کس پر شرک جھکاتے یہ ہیں
ان ہو الا وحی یوحی دیکھو کہاں چھلکاتے یہ ہیں
تکمیل ۳۱: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابرہیم حرم مکہ و انی حرمت المدینة ما بین لا بتیہا لا یقطع اعضا ہا ولا یصاد صیدھا بے شک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کو حرم بنایا اور میں نے مدینہ کی دونوں سنگستان کے بیچ میں جتنی زمین ہے اس سب کو حرم کر دیا اس کی بیولیں نہ کاٹی جائیں اور اس کا وحشی جانور شکار نہ کیا جائے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی روایت میں ہے کہ فرمایا لا یختلی خلاھا اس کی گھاس نہ چھلی جائے اور اس مضمون کی حدیثیں صحیح بخاری و صحیح مسلم وغیرہما میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بکثرت ہیں جن میں سے چوبیس حدیثیں ہم نے الامن والعلیٰ میں ذکر کیں۔ یہ اس کے نزدیک معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شرک ہوا۔ پر وہ تو شرک کے مٹانے والے ہیں۔ یہ خود ہی مشرک ہے پھر ان کی بات تو وحی خدا ہے جیسا کہ خود قرآن کریم نے فرمایا تو یہ شرک کہاں پہنچا غرض ع می تراویح آئینہ آئینہ درآورد و بست
دل میں شرک ہی شرک بھرا ہے سب پہ وہی چھلکاتے یہ ہیں

۳۷ سن کے تیرک آب مدینہ شرک میں ڈوبے جاتے یہ ہیں
تکمیل ۳۲: سنن نسائی شریف میں ہے طلق بن علی رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضور کا بقیہ وضو مانگا۔ حضور نے پانی منگا کر وضو فرمایا اور اس میں کئی ڈالی پھر ان کے برتن میں کر دیا اور ارشاد فرمایا جب اپنے شہر میں پہنچو

فاکسروا بیعتکم وانضحوا مکانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا اپنا
 گر جا توڑو اور اس زمین پر یہ پانی چھڑکو اور وہاں مسجد بناؤ۔ انھوں نے اور ان کے
 ساتھیوں نے عرض کی شہر دور ہے اور گرمی سخت ہے وہاں تک جاتے جاتے پانی خشک
 ہو جائے گا۔ فرمایا مدوہ من الماء فانه لا یزده الا طیبیا اس میں اور پانی
 ملاتے رہنا کہ پاکیزگی ہی بڑھے گی۔ مدینہ طیبہ کے حوالی میں جانب غرب کے
 سلستان میں ایک کنواں ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھی
 فرمائی تھی جب سے برابر اہل مدینہ اس سے تبرک کرتے ہیں۔ اہل اسلام اس کا پانی
 زمزم شریف کی طرح دور دور لے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا نام ہی زمزم
 شریف ہو گیا ہے۔ امام سید نور الدین علی سمودی مدنی قدس سرہ خلاصۃ الوفا شریف
 میں فرماتے ہیں بئر اہاب بصق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 فیہا وہی بالحرۃ الغریبۃ معروفۃ الیوم بزم زم وقد قال المطری لم
 یزل اهل المدینۃ قدیما و خلفا یتبرکون بہا وینقل الی الافاق من
 مائہا کما ینقل من زم زم یسمونها ایضاً زم زم لبرکتہا یعنی چاہ اہاب
 میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھی فرمائی وہ پچھان کی پتھریلی زمین میں
 ہے آج زم زم کے نام سے مشہور ہے اور بے شک مطری نے کہا کہ ہمیشہ اہل مدینہ
 سلف سے خلف تک اس سے تبرک کرتے ہیں۔ دور دور شہروں کو زم زم کی طرح اس کا
 پانی مسلمان لے جاتے ہیں۔ اس کی برکت کے سبب اسے بھی زم زم کہتے ہیں۔

۴۸ ان کو سفر طیبہ کا سقر ہے اس پر ادب کیا گاتے یہ ہیں
 تکمیل ۳۳: اقول اولاً پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر سے امام الوہابیہ کا جلنا بجا
 ہے۔ بھوت تو اس کے گنگوہی کا خدا ہے جس کا بیان آگے آتا ہے۔ اس کے مکان کا
 دور سے قصد کرنا کیوں کر شرک کہتا ہے عجب کہ گنگوہی صاحب بھی اپنے خدا شیطان
 کو بھلا کر تصدیق کرتے ہیں کہ بندہ کے نزدیک سب مسائل اس کے صحیح ہیں۔ حصہ

اول صفحہ ۶۴۔ عانتا غضب یہ کہ ان کے فتاویٰ حصہ اول صفحہ ۶، ۷ میں ہے۔ سوال!
 جو حج کو جائے اور مدینہ منورہ نہ جائے کہ کوئی فرض واجب نہیں۔ ایک کار خیر ہے
 ناحق میں ایسے راستہ خوف ناک میں جاؤں اور رویہ بھی صرف ہوگا۔ اس سے کیا
 فائدہ تو یہ کچھ گنہگار ہوگا یا نہیں۔ الجواب مدینے نہ جانا اس وہم سے کمی محبت فخر عالم
 علیہ السلام کا نشان ہے۔ ایسے وہم سے کوئی دنیا کا کام ترک نہیں ہوتا۔ زیارت ترک
 کرنا کیوں ہوا۔ ہاں واجب نہیں بعض کے نزدیک بہر حال رفع یدین و آئین بچہر
 سے زیادہ موجب ثواب و برکت کا ہے۔ اس کو تو باوجود فساد و خوف آبرو کے بھی ترک
 نہ کریں اور زیارت کو احتمال وہم سے بھی ترک کر دیو میں کونسا حصہ کمال ایمان کا ہے
 اور رویہ خیرات میں صرف ہونا سعادت ہے۔ مکہ سے مدینہ تک پچاس روپے کا
 صرف ہے جس نے پچاس روپے کا خیال کیا اور حضور کے مرقد مبارک کا خیال نہ
 کیا اس کا ایمان و محبت لاریب ناقص ہے۔ گو گنہگار نہ ہو مگر اصل جبلت میں ہی کمی
 ایمان کی ہے۔ یہ سوال دوسرے فشن کے وہابی غیر مقلد کے بارے میں تھا۔ گنگوہی
 صاحب مسلمانوں کو محبت حضور جتانے کے لیے اس پر گرج بیٹھے اور آگے پیچھے کا ہوش
 نہ رہا کہ وہ تقویٰ الایمانی شرک کے بھاری پہاڑ سر پر ٹوٹے خاص بقصد زیارت
 اقدس مرقد منور بارہ منزل سے سفر کو نہ صرف جائز بلکہ دینی کام بتاتے ہیں۔ ایک
 شرک موجب ثواب کہتے ہیں۔ دو شرک موجب برکت۔ تین شرک اس کے ترک
 میں کمال ایمان کا کوئی حصہ نہیں مانتے، چار شرک۔ اسے خیر کہا پانچ شرک۔ اس میں
 روپیہ اٹھانا سعادت جانا۔ چھ شرک اس کے ترک پر ایمان ناقص جانا۔ سات شرک
 محبت حضور ناقص مانی۔ آٹھ شرک اسے پیدا کنی کم ایمانی کہا۔ نو شرک یہ شرک کا نو لکھا
 ہاں آپ کے گلے میں پڑ گیا اور ہاں آپ کا دسواں تو رہ ہی گیا کہ ہاں واجب نہیں
 بعض کے نزدیک جس سے ظاہر کہ وہ قول ضعیف ہے اور راجح و جوب ہے یا کم از کم
 مذہب اسلام میں اس کے وجوب کا بھی قول ہے۔ دس شرک تلک عشرۃ کاملۃ

اور آپ مقرر ہیں کہ بندے کے نزدیک سب مسائل اس کے صحیح ہیں تو آپ اقراری
 وہ چند مشرک ہیں مبارک باد۔ یہ تو تقویت الایمانی نمبر تھے اب اسلامی نگاہ سے
 دیکھیے کہ جھوٹی بناوٹی محبت حضور کا پردہ کھلے وہ مردک مردود۔ اس سے کیا فائدہ کہتا
 بلکہ صاف لفظ ناحق کہہ رہا ہے اور اس پر حکم ضلالت درکنار گنگوہی صاحب اسے
 گنہگار بھی نہیں کہتے کہ گونہگار نہ ہو۔

ع حال ایمان کا معلوم ہے بس جانے دو

۴۹ ان کو سفر طیبہ کا ستر ہے اس پر ادب کیا گاتے یہ ہیں
 پھلکو چھلکو ورنہ مشرک کیا تہذیب جگاتے یہ ہیں
 تکمیل ۳۴: تف اس مذہب پر جس میں بے ہودگیاں جزو ایمان ہوں، جو نہ کرے
 مشرک ہو وہ تو خدا نے خیر کر لی کہ یہ لکھتے وقت امام الطائفہ کو آئیہ کریمہ فلا رفٹ
 ولا فسوق ولا جدال فنی الحج پوری یاد نہ آئی ورنہ راہ مدینہ میں فسق و فجور
 کرتے چلنا بھی فرض کر دیتا۔ ایسا کہ جو نہ کرے اس پر شرک ثابت ہے مگر خدا را یہ
 احکام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جانے ہی میں ہیں۔ دیوبند و گنگوہ
 نانوتہ و تھانہ بھون کیا مکرمہ ہیں ان کے را سے میں گنگوہی، نانوتوی، تھانوی کیا کیا
 نام معقول بے ہودہ باتیں، کون کون سے فسق و فجور کرتے چلے اور چلتے ہیں تو سارے
 کے سارے مشرک ہوئے۔

۵۰ شہ کا خیال نماز میں آنا درجوں خر سے گراتے یہ ہیں
 تکمیل ۳۵: اللہ اللہ ان وہابیوں اور دیوبندیوں کے ادعائی مسلمان یہ کچھ سنیں اور پھر
 وہ امام اور یہ بدستور اس کے غلام لبئس المولیٰ ولبئس العشیو۔

۵۱ و سورہ فاتحہ اور تشہد شرک اندھن میں دھنساتے یہ ہیں
 تکمیل ۳۶: اقول سورہ فاتحہ میں الصراط المستقیم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 ہیں۔ انعمت علیہم کے سردار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور تشہد میں تو بالخصوص

حضور سے خطاب و ندا و عرض سلام و شہادت رسالت ہے اور وہ کہہ چکا کہ ان کا
 خیال تعظیم کے ساتھ آئے گا اور نماز میں تعظیم غیر کا ملحوظ ہونا خواہی نحوہی شرک کی
 طرف لے جائے گا تو حاصل یہ کہ نماز پڑھنا خواہی نحوہی شرک ہونا ہے۔ صحابہ سے
 آج تک جتنے نمازی ہوئے سب مشرک اور شریعت شرک کا حکم دینے والی بلکہ شرک
 کو واجب کرنے والی الا لعنة اللہ علی الظلمین۔

۵۲ منصب فہم نکات قرآن ہر گیدی کو دلاتے یہ ہیں
 ۶۰ بے سمجھائے نہ سمجھے صحابہ اپنی ٹانگ اڑاتے یہ ہیں
 حق کے بیاں کی نبی کو حاجت پیٹ سے خواندے آتے یہ ہیں
 قرآن ہر شے کا ہے بتیاں صفر نبی کو بناتے یہ ہیں
 معطی علم ہیں سرور عالم ان سے الگ کتراتے یہ ہیں
 حق نے یَعْلَمُهُمْ فرمایا خود فہمید مناتے یہ ہیں
 فی الامتین یاد ہے ان کو وہ تعلیم بھلاتے یہ ہیں
 بعض کتاب پہ نام کو ایماں بعض سے کفر دکھاتے یہ ہیں

تکمیل (۳۷): تقویت الایمان کی ان عبارتوں میں کہ زیر قول ۵۷ تا ۶۰ منقول
 ہوئیں ہر جاہل ہر نامشخص کو یہ تعلیم ہو رہی ہے کہ مولویوں کی نہ سنو بلکہ کلام اللہ کو خود
 سمجھو اور اس کے ذریعہ سے مولویوں یعنی ائمہ مجتہدین کے اقوال کو پرکھو اگر تمہیں
 مطابق لگیں مانو ورنہ پھینک دو حالانکہ اولاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کی زبان
 میں قرآن اترا بارہا بغیر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سمجھائے نہ سمجھے حدیثوں میں
 اس کے وقائع بکثرت ہیں خود اللہ عزوجل فرماتا ہے فاسئلوا اهل الذکر ان
 کتتم لا تعلمون علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو ساتھ ہی فرمایا و انزلنا
 الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم اے محبوب ہم نے قرآن تمہاری
 طرف اتارا اس لیے کہ اس میں سے جتنی باتیں عام سے متعلق ہیں تم انہیں اپنے

بیان سے سمجھا دو اقول تو جاہلوں کو عالموں کی طرف بھیجا اور عالموں کو رسول کی طرف اور رسول کو قرآن کی طرف۔ جو اس سلسلے کو توڑے گمراہ بددین ہے ثانیاً اقول خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ کے بیان کی حاجت تھی یہاں ہر گیدی بے وساطت ائمہ بلکہ ائمہ کے قول پر کھنے کو خود سمجھ رہا ہے قال تعالیٰ "فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ" جب ہم قرآن پڑھیں اُس وقت غور سے سنو کہ لفظوں کو اسی طرح محفوظ کر لو پھر اُس کے معانی کا بیان ہمارے ذمے ہے اور اگر یہ معنی ہوں کہ تمہاری زبان پاک سے اُس کی توضیح کر ادینی ہم پر ہے تو احتیاج صحابہ میں تو کلام نہیں۔ ثالثاً اقول قرآن عظیم تو ہر شے کا روشن بیان ہے قال اللہ تعالیٰ "ونزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شیء" اُس میں ہر شے کی تفصیل ہے 'وکل شیء فصلنہ تفصیلاً' اس میں کوئی بات اٹھانہ رکھی، ما فرطنا فی الکتب من شیء، اگر اسے دین و احکام ہی کے ساتھ تخصیص کر اور ٹھہرا یہ کہ اُس کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہر جاہل بے وساطت علما سمجھ سکتا ہے تو تمام احکام و علوم دین صرف قرآن سے آجائیں گے۔ اب دین و شریعت میں نبی کی کیا حاجت رہی۔ اگر کہیے خود نہیں بلکہ نبی کے بیان سے تو اقول جس طرح تو نے آیت 'ہو الذی بعث فی الامیین' پڑھ کر کہا صفحہ ۴۲ جو کوئی یہ آیت سن کر کہنے لگے کہ پیغمبر کی بات سوا عالموں کے کوئی سمجھ نہیں سکتا، اُس نے اس آیت کا انکار کیا۔ یوہیں پہلی آیت ولقد انزلنا الیک ایت بینت جس کا نتیجہ تو نے یہ نکالا کہ باتیں کھلی اُن کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں پڑھ کر کہا جائے گا کہ جو کوئی یہ آیت سن کر کہنے لگے کہ قرآن میں کھلی باتیں نہیں ان کا سمجھنا مشکل ہے بے نبی کے سمجھائے سمجھ میں نہ آئیں گی اس نے اس آیت کا انکار کیا۔ تو ضرور ماننا پڑے گا کہ نبی کے بیان کی بھی حاجت نہیں اقول اب وہ جو فریب وہی کو جا بجا رسول کا نام اور رسول کا سکھانا شامل کیا تھا کھل گیا کہ محض جھوٹ تھا تو حضور سے بھی الگ کترایا اور ان کی تعلیم کو بھی صفر بنایا ایک ہی آیت کافی

الامیین، لیا کہ ان پڑھوں میں کتاب لائے تو آن پڑھ سمجھ لیں گے اور اسی کے بَعَلْمَهُمُ الْکِتَابُ سے کفر کیا کہ نبی کا علم عطا فرمانا بے کار کر دیا۔

(۶۱) جب تو مقلد مجتہدین کو نصرانیت اڑھاتے یہ ہیں تکمیل (۳۸): ہر مذہب میں بعض قول ایسے ہیں کہ ظواہر کتاب و سنت سے ان کے خلاف پر استدلال ہوتا ہے اور اس کے علما باتباع امام مذہب ان میں تاویل کرتے ہیں یہاں حضرت شیخ مجدد کی دھوم دھامی عبارت الفضل الموبہی صفحہ ۲۰ والکوکبۃ الشہابیہ صفحہ ۴۹ وغیرہما میں ہم بار بار پیش کر چکے اور پچیس سال کامل سے آج تک بفضلہ تعالیٰ لا جواب ہے اور بعونہ تعالیٰ ہمیشہ لا جواب رہے گی جس سے ثابت کہ اسمعیل دہلوی کے دھرم میں حضرت شیخ مجدد و معاذ اللہ سخت کٹر مشرک نصرانی تھے اب اگر اسے نہ مانئے تو اسمعیل کے پکے گمراہ بددین ہونے کا اقرار کیجیے اور مانئے تو شاہ عبدالعزیز و شاہ ولی اللہ صاحبان مشرک نصرانی کو پیر طریقت و امام ربانی مان کر مشرک نصرانی اور انہیں اور انہیں تینوں کو شیخ و امام و ہادی انام مان کر اسمعیل مشرک و نصرانی اور ان تینوں اور اس چوتھے کو ایسا ہی مان کر سارے وہابی مشرک و نصرانی کہیے مفرکہر 'کذا لک العذاب وللعذاب الاخرة اکبر لو کانوا یعلمون'

(۶۲) سا پھی پٹھی کے سکے کھوٹے جھنجی اپنی بھناتے یہ ہیں تکمیل (۳۹): ظاہر ہے کہ ان میں اکثر وہ نرے کو دن جاہل ہیں جو اردو بھی نہیں پڑھ سکتے انہیں بھی یہی برابر پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ مثلاً حنفی مذہب کا فلاں مسئلہ خلاف حدیث ہے اس پر عمل نہ کرو حدیث پر چلو اب وہ کاٹھ کا آلو حدیث کیا جانے اور مخالفت کیا سمجھے ضرور ان کے اعتبار پر بے دلیل مانے گا یہی تقلید ہے تو حاصل یہ ہوا کہ ابوحنیفہ و شافعی کی تقلید مشرک و بدعت ہے ہماری تقلید کرو کہ عین سنت ہے۔

(۶۳) روئے زمیں پر کافر ہیں سب ایسی باؤ چلاتے یہ ہیں تکمیل (۴۰): اقول یہ تو سن چکے کہ جناب امام الطائفہ صاحب کے اس قول میں دو

کفر ہیں ایک ساری اُمت مرحومہ کو کافر کہنا دوسرا اپنے منہ آپ کافر ہونا بھلا اللہ تعالیٰ مسلمان تو مسلمان ہیں کسی کفر فروش کے کافر کہے کافر نہ ہوں گے مگر اقرار و آزار و ان کے دونوں کفر اٹل ہیں تو یہ ڈبل کافر ہوئے اور اسی قول سے جناب گنگوہی صاحب ڈیڑھ ڈبل کافر ان کے دو کفر تو وہی اسمعیل والے کہ بندہ کے نزدیک سب مسائل اس کے صحیح ہیں اور تیسرا کفر اس جیسے بھاری اقراری کافر کو امام ماننا اور جناب تھانوی صاحب دو ڈبل کافر ان کا چوتھا کفر گنگوہی صاحب کو امام جاننا اور سارے کے سارے دیوبندی ڈھائی ڈبل کافر ان کا پانچواں کفر تھانوی صاحب کو حکیم الامتہ بھاننا۔ اس ایک ہی قول اسمعیلی نے کتنے کفر اُگائے، اُس نے بار بار کہہ دیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو اوروں کو ماننا محض خطبہ ہے آپ سب صاحبوں نے نبی کے بارے میں تو اُس کی یہ وصیت مانی مگر اپنوں کے حق میں مہمل جانی انہیں مانا اور اپنے آپ کو کفر و کفر چوگنے چگنے کفر میں سانا۔

(۷۸۶۶۳) شاہ و ملک جبریل و قرآن سب پر شرک گھماتے یہ ہیں تورات و انجیل و زبور اب ان سے شرک جناتے یہ ہیں غیب پہ کشتی خضر و موسیٰ شرک بھنور میں پھنساتے یہ ہیں سجدہ یعقوب و یوسف کو چاہ شرک جھنکاتے یہ ہیں ابرئی الاکمه والابوص پر سولی سے دھمکاتے یہ ہیں احی الموتی سن کے تو مر کر شرک گڑھے میں سماتے یہ ہیں نام پسر پر آدم و حوا دونوں کا دین کھپاتے یہ ہیں تکمیل (۴۱): اسمعیلی شرک امور عامہ سے ہے کہ جملہ موجودات بشر و ملک و امت و

انبیاء بندہ و خدا سب کو شامل اُس کا احاطہ بعید و مشکل۔ نمونہ چاہو تو ان فصلوں سے حاصل۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اسمعیلی شرک کے فتوے

(۱) نمبر ۳۶ تکمیل ۳۱ میں گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے

جنگل کے ادب کے جو حکم فرمائے اس نے صاف کہہ دیا یہ سب شرک ہیں۔

(۲) صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: 'انہ کان فقیرا لنا غناہ اللہ ورسولہ' و محتاج تھا اُسے اللہ ورسول نے غنی کر دیا تقویت الایمان صفحہ ۱۱۔ روزی کی کشائش کرنی اللہ ہی کی شان ہے کسی انبیا بھوت کی یہ شان نہیں جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے وہ مشرک ہے پھر خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے اُن کو ایسی قدرت بخشی ہر طرح شرک ہے صفحہ ۲۹ و ۳۰۔ اس بات کی اُن میں کچھ بڑائی نہیں کہ اللہ نے اُن کو عالم میں تصرف کی کچھ قدرت دی ہو کہ غنی کر دیں۔

(۳) صحیحین میں ہے عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے گناہ بخش دیجیے۔

(۴) ہم پر سیکنہ اُتاریے۔

(۵) ہمیں جہاد میں ثابت قدم رکھیے۔

(۶) صحیح مسلم میں اتنا اور ہے ہم حضور کے فضل سے بے نیاز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان باتوں پر نہ فرمایا کہ ارے کیا شرک بول رہے ہونہ یہ تقویت الایمانی احکام سنائے صفحہ ۵۲ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں صفحہ ۳۴ میں آپ ہی ڈر رہا ہوں سو دوسرے کو کیا بچا سکوں صفحہ ۴۶ اللہ کے یہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے صفحہ ۳۵ کسی کام میں نہ بالفعل دخل ہے نہ اس کی طاقت صفحہ ۴۹ نفع نقصان کی امید اسی سے چاہیے اور سے شرک ہے صفحہ ۳۵ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے عاجز ناکارے بلکہ اُلٹی ان شرکوں پر اور رجسٹری فرمادی کہ ان کو شہادت کی دعا دی۔

(۷) اور بڑھ کر یہ کہ حضور کی دعائے شہادت پر امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کاش ہمیں حضور نے ان سے نفع لینے دیا ہوتا شرح صحیح بخاری للعلامة القسطلانی میں ہے یعنی ابھی حضور انہیں زندہ رکھتے۔ حضور نے

اتنے بڑے بول پر بھی اعتراض نہ فرمایا۔ اصل حدیث اور ان پانچ کا بیان الامن والعلیٰ میں شروع صفحہ ۸۵ سے وسط صفحہ ۸۹ تک دیکھیے۔

(۸) ابن عساکر کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ کے بارے میں میرا لحاظ رکھے 'فانا احفظه یوم القیامة میں روز قیامت اس کا حافظ و نگہبان ہوں گا۔

(۹) ابن عدی و ابن عساکر کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا "انسی احید عن امتی نار جہنم" میں اپنی امت سے دوزخ کی آگ دفع فرماؤں گا۔

(۱۰) ابن عساکر و ابو نعیم و غیر ہمانے امیر المؤمنین علی سے امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں حدیث روایت کی "کان ختن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی ابنتیہ ضمن له بیتا فی الجنة" حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو شاہزادیاں انہیں منسوب ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی ضمانت فرمائی۔

(۱۱) طبرانی و ابن عساکر کی حدیث ہے عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں یہ چشمہ خرید کر مسلمانوں کے لیے کروں 'أتجعل لی عیناً فی الجنة' کیا اس کے بدلے حضور مجھے جنت میں چشمہ عطا فرمائیں گے 'قال نعم فرمایا ہاں۔

(۱۲) ابو نعیم کی حدیث ہے حضور مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا 'لک الجنة علیٰ یا طلحة غدا' اے طلحہ کل تمہیں جنت دینا میرے ذمہ پر ہے۔

(۱۳) طبرانی و ابو نعیم و ابن عساکر و غیر ہم کی حدیث ہے حضور نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا 'اما امر اخر تک فانا لها ضامن' تمہاری آخرت کے معاملہ کا میں ذمہ دار ہوں ان چھ حدیثوں میں یہ دخل، یہ طاقتیں اور وہ

بھی اللہ کے یہاں کے معاملے میں کھلے اسمعیلی شرک ہیں۔

(۱۴) امام احمد و امام طحاوی کی حدیث ہے اعشے مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی "یا مالک الناس" اے تمام آدمیوں کے مالک۔ تفویت الایمان صفحہ ۳۰۔ شرک سے بہت دور بھاگیے نہ اللہ کے سوا کسی کو حاکم سمجھیے کہ کسی چیز میں کچھ تصرف کر سکتا ہے نہ کسی کو اپنا مالک ٹھہرائیے کہ اپنی حاجت اُس کے پاس لے جائیے۔

(۱۵) ابن شاذان کی حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر فرمایا "یا حمزة یا کاشف الکربات یا حمزة یا ذاب عن وجه رسول اللہ" اے حمزہ اے سختیاں دفع کرنے والے، اے حمزہ اے رسول اللہ کے چہرے سے دشمنوں کو دور کرنے والے۔ کاشف الکربات و دافع البلا و مشکل کشا ایک ہی بات ہے، یہ کتنا بھاری اسمعیلی شرک ہے۔

تمام ملائکہ و آدم علیہم الصلاة والسلام پر اسمعیلی شرک کا فتویٰ

قرآن عظیم فرماتا ہے 'فسجد الملائكة کلهم اجمعون' تمام جمع کل ملائکہ نے اللہ کے حکم سے آدم علیہ الصلاة والسلام کو سجدہ کیا۔ تفویت الایمان صفحہ ۹۲ جو کسی پیغمبر کو سجدہ کرے اس پر شرک ثابت ہے ہر طرح شرک ہے تو اللہ نے حکم دیا ملائکہ نے سجدہ کیا آدم نے قبول کیا سب پر شرک ثابت۔ اور یہ جیلہ نہیں چل سکتا کہ پہلے جائز تھا۔ یہی تو کہا جاتا ہے کہ خدا نے شرک جائز کیا زمانہ بدلنے سے شرک نہیں بدل سکتا کہ خدا کا شریک اب تو نہیں ہاں کبھی اگلے زمانے میں ہو سکتا ہو اور جب ہر زمانے میں ناممکن تو جو آج شرک ہے قطعاً ہمیشہ سے شرک تھا اور اسی کو خدا نے جائز کیا اور معاذ اللہ انبیاء و ملائکہ مرکب ہوئے خود گنگو ہی صاحب کی لطائف رشیدیہ صفحہ ۲۴ میں ہے شرک بہر حال شرک ہی ہے خواہ نبی سے قبل ہو یا بعد۔

جبرئیل علیہ الصلاۃ والسلام پر اسمعیلی شرک کا فتویٰ

قرآن عظیم فرماتا ہے جبرئیل امین نے حضرت مریم سے کہا ”انما انا رسول ربک لا ھب لک غلاماً زکیاً“ میں تو تمہارے رب کا رسول ہوں کہ میں تم کو ستھرا بیٹا دوں تو مسیح علیہ الصلاۃ والسلام رسول بخش ہوئے۔ تقویت الایمان صفحہ ۶، ۵ کوئی نام عبد اللہ رکھتا ہے کوئی علی بخش غرض جو کچھ ہندو اپنے بتوں سے کرتے ہیں وہ سب یہ نام کے مسلمان اولیا انبیا اور فرشتوں سے کر گزرتے ہیں اور دعویٰ مسلمانی کا کیے جاتے ہیں سبحان اللہ یہ منہ اور یہ دعویٰ۔ شرک میں گرفتار ہیں۔

”قرآن کریم پر اسمعیلی شرک کے فتوے“

اللہ عزوجل پر اسمعیلی دس حکم شرک اوپر گزرے ایک نمبر ۲۴ چھ نمبر ۲۸۔ ایک ایک ۳۷، ۶۳، ۶۴ میں اور دو نمبر ۶۹ و ۷۱ میں آتے ہیں بارہ ہوئے۔
(۱۳) اغنہم اللہ ورسولہ من فضلہ انہیں غنی کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے۔

(۱۴) فالمدبرات امراء قسم ان فرشتوں کی کہ کام کی تدبیر کرتے ہیں، اور خود فرماتا ہے ”ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ“ اے نبی ان کافروں سے پوچھو وہ کون ہے کہ کام کی تدبیر کرتا ہے اب کہہ دیں گے کہ اللہ، تو یہ اللہ کی ایسی خاص صفت ہوئی کہ مشرکین تک اس کا اختصاص جانتے تھے پھر خود ہی اسے فرشتوں کے لیے ثابت فرمایا۔ تقویت الایمان صفحہ ۸۔ اللہ نے کسی کو عالم میں تصرف کی قدرت نہیں دی۔ صفحہ ۳۳ جو کوئی کسی مخلوق کو عالم میں تصرف ثابت کرے اس پر شرک ثابت ہے۔

(۱۵) وما هو علی الغیب بضنین O یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں جسے خود علم نہ ہو دوسرے کو کیا بتائے گا تو آئیے کریمہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے غیب کا علم ثابت فرما رہی ہے اور حضور کے بتائے سے حضور کے غلاموں کو۔
معالم التنزیل و تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت میں ہے ”یقول انہ صلی اللہ

نعالیٰ علیہ وسلم یاتیہ علم الغیب فلا یبخل بہ علیکم بل یعلمکم“ یعنی اللہ عزوجل فرماتا ہے میرے نبی کو علم غیب آتا ہے وہ تمہیں بتانے میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کو بھی اس کا علم دیتے ہیں۔ تقویت الایمان صفحہ ۳۲ جو کوئی کہے کہ پیغمبر خدا غیب کی بات جانتے تھے وہ بڑا جھوٹا ہے بلکہ غیب کی بات اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں صفحہ ۳۱ کسی انبیا اولیا کی جناب میں ہرگز یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ حضرت پیغمبر کی بھی جناب میں ہرگز یہ عقیدہ نہ رکھے۔ صفحہ ۷۸ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے رسول کو کیا خبر صفحہ ۳۰ ان باتوں میں سب بڑے چھوٹے یکساں بے خبر ہیں اور نادان، فتاویٰ گنگوہی حصہ ۳ صفحہ ۷، اثبات علم غیب غیر حق تعالیٰ کو شرک صریح ہے۔ ایضاً صفحہ ۴۲ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا معتقد ہے قطعاً مشرک و کافر ہے۔

توریت مقدس پر اسمعیلی شرک کے فتوے

شاہ عبدالعزیز صاحب تحفۃ اثنا عشریہ میں لکھتے ہیں توریت مقدس کے سفر چہارم میں ہے ”ان ہاجرة تلد ویکون من ولدھا من یدہ فوق الجمیع و ید الجمیع مبسوطة الیہ بالخشوع“ بے شک ہاجرہ کے اولاد ہوگی اور اُس کی اولاد میں وہ ہوگا جس کا ہاتھ سب سے بلند و بالا ہے اور سب کے ہاتھ اُس کی طرف پھیلے ہیں عاجزی اور گڑ گڑانے میں۔ یہ مرجع حاجات عالم و حاجت روائے تمام جہاں ہونا اور تمام عالم کا اُن سے اپنی اپنی مرادوں کی بھیک مانگنا گڑ گڑا کر اُن کی طرف ہاتھ پھیلا نا کتنے بڑے بھاری شرک ہیں جن میں نہ صرف توریت بلکہ شاہ صاحب بھی شریک ہیں بلکہ خبر صادق توریت مقدس سے تمام مسلمان، بلکہ یہاں سے تو یہ نکلتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف عاجزی سے گڑ گڑا کر ہاتھ نہ پھیلائے وہ بحکم توریت اس جمیع یعنی جماعت مسلمین سے باہر ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

توریت و انجیل شریف پر اسمعیلی شرک کے فتوے

بیہتی و ابونعیم دلائل النبوة میں کعب احبار سے راوی کہ توریت مقدس میں ہے اور حاکم بافادۃ الصحیح اور ابن سعد، بیہتی و ابونعیم ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی کہ انجیل پاک میں ہے محمد رسول اللہ اعطی المفاتیح، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں انہیں سب کنجیاں عطا ہوئیں۔ احادیث سے ان کنجیوں کی تفصیل الامن والعلنی میں صفحہ ۵۶ سے صفحہ ۶۵ تک دیکھیے۔ خزانوں کی کنجیاں، زمین کی کنجیاں، دنیا کی کنجیاں، نصرت کی کنجیاں، نفع کی کنجیاں، جنت کی کنجیاں، نار کی کنجیاں، ہر شے کی کنجیاں۔ اب امام ابوہامیہ کا اقرار اُس کی اور اُن کی جان کا آزار سینے تفویت الایمان صفحہ ۲۴ جس کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے قتل اسی کے اختیار میں ہوتا ہے جب چاہے کھولے، جب چاہے نہ کھولے تو انجیل و توریت و احادیث سے ثابت ہوا کہ تمام دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے جب تو اُن کے رب عزوجل نے اُن سے فرمایا ”لا یکون فی الآخرة الا ما ترید“ آخرت میں وہی ہوگا جو تم چاہو گے، اب یاد کرے اپنے وہ کفری بول جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں کسی کام میں نہ بالفعل اُن کو دخل ہے نہ اُس کی طاقت رکھتے ہیں یہ تیرے طور پر معاذ اللہ توریت و انجیل کے کتنے بھاری شرک ہیں تف تف۔

وہی نور رب وہی ظل رب ہے انہیں سے سب ہے انہیں کا سب نہیں اُن کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زماں نہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں زبور مقدس پر اسمعیلی شرک کا فتویٰ

شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ میں لکھا زبور شریف میں ہے ”امتلات الارض

من تحمید احمد و تقدیسہ ملک الارض و رقاب الامم“ زمین بھر گئی احمد کی حمد اور اس کی پاکی بولنے سے احمد مالک ہوا ساری زمین اور تمام اُمتوں کی گردنوں کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب تو زبور شریف و شاہ عبدالعزیز صاحب پر اسمعیلی شرک کا پانی سر سے تیر گیا، مواتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔

موسیٰ و خضر علیہما الصلاۃ والسلام پر اسمعیلی شرک کا فتویٰ

تفسیر ابن جریر میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے خضر نے موسیٰ علیہما الصلاۃ والسلام سے کہا ”لم تحط من الغیب بما اعلم“ جو علم غیب مجھے ہے آپ کا علم اسے محیط نہیں۔ ابن عباس نے فرمایا ”وکان رجلاً یعلم علم الغیب“ خضر علم غیب جانتے تھے قرآن عظیم میں فرمایا ”وعلمناہ من لدنا علماً۔“ تفسیر بیضاوی میں ہے ”وہو علم الغیب“ یعنی رب عزوجل اس آیت کریمہ میں یہ فرماتا ہے کہ ہم نے خضر کو علم غیب دیا، قرآن و خضر پر تو اسمعیلی شرک کا حکم ظاہر ہے موسیٰ پر یوں کہ اسے سنا اور قبول کیا ورنہ کشتی کا تختہ توڑ دینے اور بے اجرت دیوار سیدھی کر دینے پر انکار فرمایا تھا اسمعیلی خاص شرک کی بول پر یوں چپ رہتے۔

یعقوب و یوسف علیہما الصلاۃ والسلام پر اسمعیلی شرک کا فتویٰ

قرآن کریم میں ہے ”وخروالہ سجداً“ یعقوب اور ان کی بی بی اور گیارہ بیٹے سب یوسف کے لیے سجدے میں گرے علیہم الصلاۃ والسلام اور تفویت الایمان کی عبارت فصل ۲ میں گزری کہ یہ ہر طرح شرک ہے۔

عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اسمعیلی شرک کے فتوے

قرآن حکیم میں ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ”ابری الا کمہ والابوص و اُحی الموتی باذن اللہ“ مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو میں تندرست کر دیتا ہوں اور مردے میں جلاتا ہوں اللہ کے اذن سے، تفویت الایمان صفحہ ۱۱ جلانا

اور تندرست کرنا یہ سب اللہ ہی کی شان ہے کسی انبیاء کی بھوت کی یہ شان نہیں جو کوئی کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے وہ مشرک ہے خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی قدرت بخشی ہے ہر طرح شرک ہے افسوس کہ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے باذن اللہ کہنے نے بھی کام نہ دیا کیونکہ ہر طرح شرک ہے اسمعیلی کے رسالہ منصب امامت اور فتوائے گنگوہی صفحہ ۲۴ میں ہے عالم وجود میں بندہ مقبول سے تصرفات ماننا اگرچہ بحکم خدا مانے محض کفر ہے اور اسمعیلی کا یہ لفظ کہ اپنی خواہش سے مارنا جلانا الخ..... اس کے یہ معنی نہیں کہ بے ارادہ خدا اپنے مستقل ارادے سے کہ یوں توبہ عطاء الہی جلانا وغیرہ شرک نہ رہے گا اور وہ کہہ چکا ہر طرح شرک ہے بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ ان کا فعل ارادی سمجھے تو مطلقاً مشرک، بلکہ وہ نرے پتھر ہیں جس کو نہ کچھ اختیار نہ فعل اس کا فعل دیکھو رسالہ منصب امامت میں اس کی اور فتاویٰ میں گنگوہی صاحب کی عبارت اور دونوں کی اور صاف تصریحیں کہ نمبر ۲۸ میں گزریں وہیں حضرت مسیح پر اسمعیلی چوتھا شرک بھی بیان ہوا۔

آدم وحواء علیہما الصلاۃ والسلام پر اسمعیلی شرک کا فتویٰ

جامع ترمذی شریف وغیرہ کی حدیث ہے کہ آدم وحواء علیہما الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کا نام عبدالحارث رکھا حارث کا بندہ۔ اور نمبر ۶۳ میں تقویت الایمان کی عبارت گزری کہ عبدالنبی نام رکھنا بھی شرک ہے اور ایسے شخص کا دعوائے مسلمانی جھوٹا عبدالحارث تو عبدالحارث۔

(۸۸ تا ۸۰)

عبد عزیز و ولی اللہ کو
شیخ مجدد صاحب پر تو
آپ پہ ڈھالیں باپ پہ ڈھالیں
حاجی امداد اللہ کو بھی
شرک کی دلی دکھاتے یہ ہیں
سب سے سوا غراتے یہ ہیں
کون ہے جس کو بچاتے یہ ہیں
شرک مدد پہنچاتے یہ ہیں

تھانوی قاسم گنگوہی کو شرک کے تھان بندھاتے یہ ہیں
قد یصدق خود اور یہ تینوں چار پہ سچ ڈھلکاتے یہ ہیں
شرک فقہی کفر کلامی باہم بانٹتے کھاتے یہ ہیں
تکمیل ۴۲: اسمعیلی ان شرکوں کی بوچھاڑ ایک ایک بڑے پر بڑی بھر مار اس کا شمار اور بھی دشوار، بعض کا بطور نمونہ اظہار۔

شاہ عبدالعزیز صاحب پر اسمعیلی شرک کے فتوے

شاہ صاحب کے دو شرک نمبر ۶۸ میں گزرے کہ توریت وزبور کی ان آیتوں پر ایمان لائے جن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تمام عالم کا اپنی مرادوں کی بھیک مانگنا، گڑگڑا، گڑگڑا کر ان کی طرف ہاتھ پھیلا نا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مالک گل ہونا ہے۔

(۳) شاہ صاحب تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں بعض اولیا کو بعد انتقال بھی دنیا میں تصرف کرنا عطا ہوتا ہے۔ (۴) وہ اس حال میں بھی دنیا کی طرف متوجہ ہیں۔ (۵) فیض دیتے ہیں۔ (۶) حاجت مندان سے اپنی حاجتیں مانگتے اور پاتے ہیں۔ (۷) وہ مشکلیں حل فرماتے ہیں۔ (۸) تحفۃ اشاعریہ میں فرماتے ہیں تمام امت مولیٰ علی اور ان کی اولاد کرام کو پوجتی ہے۔ (۹) جس طرح پیروں کی پرستش کرتی ہے۔ (۱۰) عالم کے کاروبار کو ان کے ارادے سے وابستہ مانتی ہے۔ (۱۱) ان کے نام کی نذر کا معمول ہے۔ (۱۲) سب اولیا کے ساتھ یہی معاملہ ہے ان پر تقویت الایمان کے احکام شرک اوپر گزرے ایک چوٹی کا یہاں بھی سن لیجئے صفحہ ۸، ۹ پیغمبر خدا کے وقت کے کافر بھی اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہ جانتے تھے مگر یہی پکارنا اور نذر نیاز کرنی اور ان کو اپنا سفارشی سمجھنا یہی ان کا کفر و شرک تھا سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو اسے اللہ کا بندہ و مخلوق ہی سمجھے سو ابو جہل اور وہ شرک میں برابر ہے شاہ صاحب تو ابو جہل کے برابر مشرک ہوئے ہی مگر وہ تو ساری امت کو اسی بلا میں مبتلا بتاتے ہیں تو ساری

امت ابو جہل کے برابر مشرک ہے جیسی کہا تھا کہ پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا کہ دنیا بھر میں کوئی مسلمان نہ رہا۔

شاہ ولی اللہ صاحب پراسمعیلی شرک کے فتوے

شاہ ولی اللہ کی کتاب انتباہ سے ظاہر کہ وہ خود اور ان کے بارہ ۱۱۲ اساتذہ حدیث و پیران سلسلہ اسناد علی کی سندیں لیتے اجازتیں دیتے وظیفہ کرتے:

ناد علیاً مظهر العجائب تجده عوناً لک فی النوائب کل ہم و غم
سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی

علی کو پکار جن سے عجیب عجیب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو انہیں مصیبتوں میں مددگار پائے گا ہر غم و پریشانی اب دور ہوتی ہے آپ کی ولایت سے یا علی یا علی یا علی۔ یہ فرمائشی تین شرک ہیں۔

(۵،۴) اسی انتباہ میں کشتہ قبور کے لیے فرماتے ہیں جب مقبرہ میں جائے دوگانہ ان ولی کی روح کے واسطے ادا کرے پھر فاتحہ پڑھ کر سات دفعہ طواف کرے پھر مزار کی پائنتی جا کر رخسارہ رکھے تقویت الایمان صفحہ ۱۲ طواف کرنا ایک پتھر کو بوسہ دینا اس کی دیوار سے اپنا منہ ملانا یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کے بتائے ہیں جو کسی پیغمبر یا بھوت کو کرے اس پر شرک ثابت ہے۔

حضرت شیخ مجدد صاحب پراسمعیلی شرک کے فتوے

حضرت شیخ مجدد کے مکتوبات جلد ۲ مکتوب ۳۰ صفحہ ۴۶ میں ہے۔ (۱) تصویر شیخ

کا ایسا غلبہ کہ نمازوں میں صورت شیخ کو سجدہ معلوم ہو اور ہر چند یہ خیال ہٹانا چاہے نہ ہے یہ دولت ہزاروں میں ایک کو ملتی ہے جو سعادت مند ہو۔ (۲) ہر حال میں شیخ کو اپنے اور خدا کے بیچ میں رکھو۔ (۳) نماز وغیر نماز میں ہر وقت شیخ کی طرف متوجہ رہو اول وسوم پر تقویت الایمانی احکام اوپر معلوم دوم پر کہتا ہے صفحہ ۴۲ یہ نہیں سمجھتا کہ پیرو پیغمبر تو اس سے دور ہیں اور اللہ نہایت نزدیک، سو یہ ایسا ہے کہ ایک رعیتی بادشاہ کے

پاس ہے بادشاہ اسی کی سنے کو متوجہ پھر وہ کسی امیر وزیر کو دور سے پکارے کہ میری طرف سے فلانی بات عرض کر دے سو وہ اندھا ہے یا دیوانہ یہ خطاب چھنٹ رہے ہیں ان کو جنہیں اپنا پیر طریقت و سردار سلسلہ کہتا ہے۔ (۵،۴) مکتوبات جلد اول مکتوب ۳۱۲ صفحہ ۴۲۸، ۴۳۹ اشارہ سبابہ میں حدیثیں بہت سی آئی ہیں اور فقہی روایتیں بھی ہیں مگر فتویٰ کراہت پر ہے ہم مقلدوں کو نہیں پہنچتا کہ حدیثوں پر عمل کر کے اشارے کی جرأت کریں اشارہ نہ کرنا ہمارے اگلے علما کی راہ و رسم ہے تقویت الایمان صفحہ ۴۲ کسی کی راہ و رسم کو ماننا اور اسی کے حکم کو اپنی سند سمجھنا انہیں باتوں میں ہے کہ خاص اللہ نے اپنی تعظیم کی ٹھہرائی ہیں پھر جو کوئی یہ معاملہ کسی مخلوق سے کرے اس پر شرک ثابت ہے ایضاً جو کوئی حدیث کے مقابل قول کی سند پکڑے شرک ہے۔

خود اپنی ذات اور اپنے پیر پراسمعیلی شرک کے فتوے

حضرت شیخ مجدد و شاہ ولی اللہ و شاہ عبدالعزیز صاحبان کے ۲۲ شرک کہ بطور نمونہ گزرے سب اس کے اور اس کے پیر کے شرک ہیں کہ یہ انہیں کے سلسلہ میں داخل، انہیں کے غلام، انہیں پیر و مرشد و امام و ولی جاننے والے اور جو مشرک کو ایسا مانے خود مشرک ہے پھر اسمعیلی کا زعم ہے کہ صراط مستقیم اس کے پیر کا بیان اور خود اس کی تحریر ہے اس میں جا بجا تقویت الایمانی شرک برساتی کیڑوں کی طرح جگجگار ہے ہیں تو یہ اور اس کے نزدیک اس کا پیر دونوں اپنے مستقل شرکوں سے بھی مشرک مثلاً (۲۳) صراط المستقیم صفحہ ۳۶۔ اکابر اولیا ملائکہ کی طرح جہان کے کاموں کی تدبیر اور ان کے جاری کرنے میں کوشش کرتے ہیں۔ (۲۴) صفحہ ۶۶ بادشاہوں کو بادشاہی، امیروں کو امیری ملنے میں مولا علی کی ہمت کو دخل ہے۔ (۲۵) صفحہ ۱۱۲ ان کو اختیار مطلق ملتا ہے کہ عالم میں جو چاہیں تصرف کریں۔ (۲۶) صہ یہ اولیا کہہ سکتے ہیں کہ عرش سے فرش تک ہماری سلطنت ہے۔ (۲۷) صفحہ ۱۱۵ اللہ تعالیٰ تمام مہم کام

انجام دینے کے لیے ان کو اپنا نائب کرتا ہے۔ (۲۸) صفحہ ۳۴ عالم کے ہست نیست اور شریعت کے کن کن کی تدبیر ان کے توسط سے ہوتی ہے۔ (۳۵ تا ۲۹) اسی کے صفحہ ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۵۸، ۱۷۶۔ میں جا بجا کشف کو صحیح مانا اور وہ بھی ایسا کہ اولیا کو زمین کے دور دراز مقامات ظاہر ہوتے ہیں بلکہ آسمانوں کے مکان فرشتے روحیں ان کے مقام، جنت دوزخ، قبروں کے اندر کا حال آنے والے واقعات کھل جاتے ہیں عرش فرش سب میں ان کی رسائی ہوتی ہے لوح محفوظ پر اطلاع پاتے ہیں وہ اپنے اختیار سے زمین و آسمان میں جہاں کا چاہیں حال دریافت کر لیں اور ان سب باتوں کے حاصل کرنے کے طریقے خود ہی اس شخص اور اس کے پیروں کے بتائے کہ یوں کرو تو یہ رتبے مل جائیں گے، یہ کشف یہ اختیار ہاتھ آئیں گے، اصل عبارتیں کو کتبہ شہابیہ میں دیکھیے اس پر تقویت الایمان کی چار عبارتیں نمبر ۶۵ میں سن چکے۔ (۵) صفحہ ۳۲ جو کچھ اللہ بندوں سے کرے گا دنیا خواہ قبر خواہ آخرت میں اس کی حقیقت کسی کو نہیں معلوم نہ نبی کو نہ ولی کو نہ اپنا حال نہ دوسرے کا۔ (۶) صفحہ ۷۰ شرک سب عبادتوں کا نور کھودیتا ہے کشف کا دعویٰ کرنے والے اس میں داخل ہیں۔

۳۵ شرک امام الوہابیہ اور اس کے پیر میں مشترک ہوئے اور اسمعیل کا ایک خاص حقیقی شرک نمبر ۶ میں گزرا تو اسمعیل کے ۳۶ شرک ہوئے اور گننا ہی کیا وہاں عمر بھر یہی کمایا۔ ع ما علی مثله یعد الخطاء۔

حاجی امداد اللہ صاحب پراسمعیلی شرک کا فتویٰ

حاجی امداد اللہ صاحب کا رسالہ فتح مکیہ ترجمہ شام امدادیہ صفحہ ۱۳۵ عباد اللہ کو عباد رسول کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمة اللہ“ مرجع ضمیر متکلم کا آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی اللہ عزوجل حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ تم سب کو اپنا بندہ کہو اور ان سے یوں ارشاد فرماؤ کہ اے میرے گنہگار بندہ میرے رب

کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کتنا بڑا بھاری اسمعیلی شرک ہے وہ تو ایک شخص کا نام عبد اللہ نبی رکھنے پر جھوٹا مسلمان اور سچا مشرک کہہ رہا تھا یہاں تمام جہان عبد اللہ نبی و بندہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے الحمد للہ ہے یوں ہی ولو کسره الکافرون۔ پڑے برامائیں کافر، طرفہ یہ کہ جناب اشرف علی تھانوی صاحب اسمعیلی چمر توحید کو بھول شرک پر پھول، سونے میں سہاگہ عبارت مذکور، پر یوں حاشیہ چڑھاتے ہیں قرینہ بھی اسی معنی کا ہے۔ آگے فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمة اللہ اگر مرجع اس کا اللہ ہوتا تو فرماتا من رحمتی تاکہ مناسبت عبادی کی ہوتی اے تو واہ رے تیرا قرینہ یہ قرینہ ہے یا مادر شرک کافر زند زینہ۔

اشرف علی تھانوی صاحب پراسمعیلی شرک کے فتوے

تھانوی صاحب کا ایک بھاری شرک ابھی گزرا اور ایک نمبر ۴۹ میں اور اسمعیل کے ۳۶ شرک بھی بحکم امامت ان پر سوار اور اسی علت سے گنگوہی صاحب کے گیارہ مستقل شرک کے بھی زیر بار تو تھانوی صاحب ۵۱ شرک میں گرفتار۔

قاسم نانوتوی صاحب پراسمعیلی شرک کے فتوے

نانوتوی صاحب کا ایک شرک نمبر ۲۸ دوسرا نمبر ۴۹ میں گزرا اور بعلت امامت اسمعیلی چھتیس بھی ان پر جلوہ زاتو نانوتوی صاحب کے ۳۸ شرک ہوئے۔

رشید احمد گنگوہی صاحب پراسمعیلی شرک کے فتوے

گنگوہی صاحب کے دو شرک نمبر ۲۸، ۴۹ میں گزرے اور ۱۰ نمبر ۲۸ میں۔ اسی علت سے اسمعیلی ۳۶ مل کر ۴۸ ہوئے اور دو حقیقی شرک ان کے ذاتی اقوال میں آتے ہیں تو گنگوہی صاحب کے ۵۰ شرک ہوئے اور حاشیہ صرف نمونہ ہیں ورنہ ان صاحبوں کے شرک و کفر کا شمار سخت دشوار۔

(۱۰۰، ۹۹) مورچھل اس کی قبر پہ جھلتے نم گیرہ تنواتے یہ ہیں

بجھیل ۴۳۔ قول اللہ عزوجل پروہابیہ کے افتراء نئے نہیں، ہاں اچنبان دو عبارتوں کا

ہے جو امام الوہابیہ نے گڑھیں اور دوسرے کے لیے ان کے کرنے کو عبادتِ الہی میں اس کا شریک کر دیتا کہا قبر پر مورچھل جھلنا اور قبر پر شامیانہ کھڑا کرنا اولاً ذرا پوچھیے تو کہ آج تک کوئی مسلمان یا نہ سہی تم خود ان عبادتوں سے کبھی مشرف ہوئے ہو۔

ثانیاً۔ قبر جانے دو صرف مورچھل جھلنا شامیانہ تانا کہاں کی عبادت ہے اور اللہ عزوجل نے ان کا کب حکم دیا ہے شاید تمہارے پیر کی وحی میں اترا ہو۔
ثالثاً۔ کیا قبریں ہی خدا کی شریک نہیں زمین اور زندہ آدمی شریک ہو سکتے ہیں تو مورچھل جسے جھلا جائے اور شامیانہ جس مکان یا میدان میں تانا جائے شرک لازم تو دنیا بھر مشرک ٹھہری اور تم خود اور گنگوہی، نانوتوی، تھانوی، دیوبندی سارے کے سارے کہ اپنے مدرسے کے جلسے میں ضرور شامیانہ تواتے ہوں گے اور گرمی میں مورچھل نصیب نہیں تو پنکھا تو جھلواتے ہوں اور جھلوانے ہی پر کیا ہے عبادت کا فعل خود اپنے لیے کرنا کب شریک نہیں اب بتاؤ تم میں کون مشرک نہیں۔

(۱۰۳) جو اک پیڑ کے پتے گن دے اس کو خدائی تھماتے یہ ہیں تکمیل ۴۴: اقول جب کسی درخت کے پتے جانا خاص اللہ ہی کی شان ٹھہری جس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں تو اگر کوئی محنت کر کے گن دے تو وہ خدا ہو گیا کیونکہ غیب خاص بخدا کی طرف کسی حیلہ سے مخلوق کو راہ ناممکن لیکن اس نے جان لیا تو یہ ضرور اسمعیل کا خدا ہے۔ ایک ہی (امرود) کے پتے جان لینا کچھ دشوار نہیں اور کیلا ہو یا ڈھاک کے تین پات جب تو خداؤں کی گنتی ہی نہ رہے گی، اصل بات یہ ہے کہ محبوبانِ خدا خصوصاً سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے جلن ہے ان کا نام آیا اور شرک نے منہ پھیلا یا۔

(۱۰۶ تا ۱۰۴) حق سے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر
یوں گھل مل کے کلام حقیقی
لیکن شاہ و رسل کے حق میں
پیر کو باتیں کراتے یہ ہیں
یارانہ گنٹھواتے یہ ہیں
قاہر محض بتاتے یہ ہیں

تکمیل ۴۵: اقول مسلمانو! وہی خدا کہ اپنے پیر سے جس کے یہ یارانے لکھے رسولوں بحق میں ایسا قہار محض بنا دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل جلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بت فرماتا ہے "یجادلنا فی قوم لوط" ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے حق میں۔ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بشارت دی عرض کی اے ہرے رب میرے بیٹا کہاں سے آئے گا میں بوڑھا اور بی بی بانجھ۔ فرمایا ہمارا یوں لا ارشاد ہے، عرض کی تو اس کی مجھے کوئی نشانی دے ابو نعیم کی حدیث میں عبد اللہ بن سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک آواز سنی جبرئیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت فرمایا یہ کون ہیں؟ رض کی موسیٰ۔ میں نے فرمایا کس سے بات کر رہے ہیں؟ عرض کی اپنے رب سے۔ میں نے فرمایا ابرفع صوتہ علی ربہ کیا اپنے رب پر چلاتے ہیں؟ عرض کی ان للہ تعالیٰ قد عرف له حدتہ ان کا رب جانتا ہے کہ مزاج کے تیز ہیں۔ مسند الفردوس کی حدیث میں امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے ہے جب رب عزوجل نے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اذن لا ارضی بواحد من امتی فی النار، تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوا۔ نیز یہ حدیث ابو نعیم نے حلیہ میں، علی مرتضیٰ اور خطیب نے تلخیص المشابہ میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے وفقاً روایت کی، زرقانی میں فرمایا 'مرفوع حکما اذلا مدخل للرای فیہ' مسلمانو یہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں محبوبوں کی عزتیں، عظمتیں، وجاہتیں بے نہایت حمد اس کے وجہ کریم کو اور بے شمار درود و سلام اس کے محبوبوں پر اور کبریٰ لعنت ان کی تو ہیں کرنے والوں پر والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

(۱۰۷) کذب الہی ممکن کہہ کر
دین و یقین سب ڈھاتے یہ ہیں

تکمیل ۴۶: وہابیہ کا یہ مسئلہ طشت از بام ہے اس کے رد بہت رسائل میں ہو چکے اور بفضل تعالیٰ سبحان السبوح نے تو ان کے منہ میں پتھر دے دیا مسلمانوں کے سمجھ لینے کو اتنا ہی بہت ہے کہ جب خدا کا جھوٹ بولنا بھی ممکن ہو تو اب اس کی کس بات کا اعتبار رہا۔ اقول اب تمہارے نزدیک کیوں کر ثابت ہوا کہ قرآن میں جھوٹ نہ بولا گیا اس پر کوئی افسر ہے جس نے روک لیا یا اس کا ڈر کیا، یا اس نے خود کہا ہے کہ میرا سب کلام سچا ہے میں نے نہ جھوٹ بولا، نہ بولوں کہا کرے جب جھوٹ بول سکتا ہے تو کیا معلوم کہ پہلا جھوٹ یہی کہا ہو، یا نبی نے کہہ دیا ہے کہ خدا کا سب کلام سچا ہے سبحان اللہ جس کے خدا کا سچا ہونا واجب نہیں جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نبی کا سچا ہونا کیوں واجب ہو گیا۔ کیا نبی خدا سے بھی بڑھ کر ہے۔ غرض اب نہ قرآن رہا نہ دین نہ ایمان بچا نہ یقین۔ وہابیہ و امام الوہابیہ کا یہ ادنیٰ کرشمہ ہے کہ ایک ہی لفظ میں تمام دین و ایمان و نبی و قرآن سب پر پانی پھیر دیا۔

(۱۰۹) بالفعل ان کا خدا یہی ہے پھر امکان تو گاتے یہ ہیں

تکمیل ۴۷: اقول اولاً یہ سخت عیب خدا کو لگایا۔ ثانیاً صاف کہا کہ خدا کا ذب تو ہو سکتا تھا مصلحت کے لیے صدق لیا تو صدق الہی اختیار ہو اور ہر اختیاری مخلوق ہے اور ہر مخلوق حادث تو صدق الہی حادث و مخلوق ہوا یہ کفر ہے۔ ثالثاً وہ تو صفت کمال اسی کو مانتا ہے جس کی ضد ممکن ہو اور آلودگی سے بچنے کے لیے اس سے احتراز ہو تو تمام صفات الہیہ حادث و مخلوق ہوئیں۔ یہ اس سے بڑھ کر کفر ہے اس کا مفصل بیان سبحان السبوح میں دیکھیے۔

(۱۱۰ تا ۱۳۲)

سوئے اونگھے بہکے بھولے
غفلت ظلم تھکن محتاجی
کام کو اس پر مشکل مانیں
کیا کیا گت بنواتے یہ ہیں
کون سا نقص براتے یہ ہیں
خلق سے اس کو ہراتے یہ ہیں

کھائے بھی پھر کیوں نہیں اس کو
اف ان کے امکان کی خواری
جوڑ اور جو رو ماں باپ اس کے
اس کا شریک اور خواری میں یا اور
ذلت و عجز و خوف کا کیا غم
موہن بھوگ چڑھاتے یہ ہیں
بھیک تک اس کو منگاتے یہ ہیں
بچے اس کو جئاتے یہ ہیں
سب کی کھیپ بھراتے یہ ہیں
موت تک اس کو چکھاتے یہ ہیں

تکمیل ۴۸: اقول قرآن عظیم سے ان کی آیتیں سنئے (۱۱۰، ۱۱۱) 'لا تاخذہ سنۃ ولا نوم' اللہ کو نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند۔ (۱۱۲، ۱۱۳) 'لا یضل ربی ولا ینسی' میرا رب نہ بہکے نہ بھولے۔ (۱۱۴) 'وما اللہ بغافل عما تعملون' اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ (۱۱۵) 'ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ' اللہ ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا۔ (۱۱۶) 'وما مسنا من لغوب' آسمان و زمین بنانے سے ہمیں کوئی تھکن نہ پہنچی۔ (۱۱۷) 'فان اللہ غنی عن العالمین' اللہ تمام جہان سے بے نیاز ہے۔

(۱۱۸) 'وما ذالک علی اللہ بعزیز' یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں۔ (۱۱۹) 'وما نحن بمسبوقین' ہم سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا۔ (۱۲۰) 'وہو یطعم ولا یطعم' اللہ کھلاتا ہے اور کھاتا نہیں۔ (۱۲۱) 'لا نسئلك رزقاً' ہم تجھ سے کچھ کھانے کو نہیں مانگتے۔ (۱۲۲) 'ولم یکن لہ کفوا احد' اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ (۱۲۳) 'لم تکن لہ صاحبة' اس کے کوئی جوڑ نہیں۔ (۱۲۴، ۱۲۵) 'لم یولد' وہ کسی سے پیدا نہ ہوا۔ (۱۲۶) 'لم یلد' اس نے کسی کو نہ جنا۔ (۱۲۷) 'لا شریک لہ' اس کا کوئی شریک نہیں۔ (۱۲۸، ۱۲۹) 'ولم یکن لہ ولی من الذل' دنیا کے بادشاہ کو کبھی ذلت پہنچتی اور اس خواری میں مددگار کی حاجت پڑتی ہے اللہ ایسا نہیں۔ (۱۳۰) 'لن نعجز اللہ فی الارض ولن نعجزہ ہربا' ہم ہرگز زمین میں اللہ کو عاجز نہ کریں گے نہ بھاگ کر اس کے قابو سے نکل سکیں۔ (۱۳۱) 'ولا یخاف عقبہا' اللہ کو ان کے پیچھا کرنے کا کچھ ڈر نہیں۔ (۱۳۲) 'وتوکل علی

الحی الذی لا یموت، بھروسا کر اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا۔

(۱۳۳) تا جتنے عیب بشر کر سکتا اپنے خدا کو لگاتے یہ ہیں
 (۱۵۰) اچھلے کودے کلائیں کھائے سب کھیل اس کو کھلاتے یہ ہیں
 دیکھے پھولے سمٹے پھیلے اس کو ربڑ کا بناتے یہ ہیں
 مرد بھی عورت بھی خنثی بھی کیا کیا سوانگ رچاتے یہ ہیں
 اپنے خدا کو محفل محفل کوڑی ناچ نچاتے یہ ہیں
 چاروں سمت اک آن میں منہ ہو ناچ اس کا یہ دکھاتے یہ ہیں
 چومکھے برہما اور کانہا کے آگے سیس نواتے یہ ہیں
 دیو کے آگے گھنٹی بجا کر ہم اس سے بلواتے یہ ہیں
 لنگ جلتھری کی ڈنڈوتیں پوجا پاٹ کراتے یہ ہیں
 کتکی اشنان اور بیساکھی ڈبکی اس کو کھلاتے یہ ہیں
 زانی مزنی اچکا ڈاکو سارے جھولے جھلاتے یہ ہیں
 کون سی خواری باقی چھوڑی سب اس سے کرواتے یہ ہیں
 تکمیل ۴۹: ان افعال پر انسانی و حیوانی قدرتیں محتاج بیان نہیں ڈبکنا پھولنا بلے میں

دیکھو، سمٹنا پھیلنا سانپ میں۔ مرد و عورت اپنے اپنے مخصوص اعضاء سے مخصوص کام کرتے ہیں وہ ان میں جس کا کام نہ کر سکے قدرت میں اس سے گھٹے تو ضرور ہے کہ وہ عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت ہو سکے اور جب دونوں وصف ہیں تو آپ ہی خنثی مشکل ہوا۔ چار فاحشہ اگر ایک محفل میں رقص کرتی ہوں ہر ایک ایک طرف نوجوان فرض کیجیے اس میں اگر ان کا معبود ایک ہی طرف کومنہ کر کے ناچ سکے تو تین فاحشہ سے قدرت میں گھٹے ناچار واجب کہ ایک آن میں چاروں طرف منہ ہو ہندو برہما کو چومکھا مانتے اور کنہیا کو چکلیا جانتے ہیں تقویت الایمانی معبود وہابیہ نے دونوں وصف لیے، یہاں تک ڈیڑھ سو قول خود امام الطائفہ وہابیہ کے تھے آگے

ریدوں کی طراریاں ہیں۔ مریدین دو بھانت ہو گئے غیر مقلدین جن میں اب تازہ سربر آوردہ امرتسر کا ایک ایڈیٹر اخبار ہے وہ علمی مادہ اتنا ہی رکھتا ہے جتنا آج کل کی ایک اردو ایڈیٹری کو درکار ہے مع ہذا دوسری قسم کے بالائے طاق، خود اسی کے ہم شرب غیر مقلد اس کی گمراہی و بددینی کے معتقد اور کتاب چابک لیٹ نے ثابت کر دیا کہ وہ در پردہ نام اسلام آریہ کا ایک غلام اور باہم جنگ زرگری کام۔ ہاں قابل ذکر دیوبندی حضرات ہیں جو خنثی بلکہ چنٹی نقشبندی تک بن کر مسلمانوں کو بہکاتے ہیں۔ پھر غیر مقلدوں کا رودیابنہ کو شامل نہیں کہ یہ کہنے کو ان سے جدا ہیں اور دیابنہ پر رد غیر مقلدوں پر رد ہے کہ وہ ان پر جی سے فدا ہیں خود امرتسری کو اپنے اور ان کے ملتہ واحدہ ہونے کا اقرار ہے اور ان کے حامی سنت ناصر ملت ہونے کا اظہار ہے لہذا ان کی خبر گیری اصل کار ہے وباللہ التوفیق، ابتداً قول اذنا ب دیوبند مثل مدرس اوّل مدرسہ دیوبند محمود حسن صاحب وغیرہ کو ذکر کیا ہے اگرچہ وہ بھی در پردہ ساختہ پرداختہ ان کے اصول ہی کا ہے پھر ان کے اقا نیم ثلاثہ عالی جناب رشید احمد گنگوہی صاحب و جناب قاسم نانوتوی صاحب و خلف الکل جناب اشرف علی تھانوی صاحب کی باری ہے اور نگاہ انصاف سے دیکھنے والے کے لیے مژدہ توفیق باری ہے۔ وہو المعین وبہ استعین۔

میں اضافہ دیوبندیان

(۱۵۸) کھکل عیبی پوج خدا کو پوجتے اور پوجاتے یہ ہیں تکمیل ۵۰: اقول آدمی کا شراب پینا یہی ہے کہ باہر سے اپنے جوف میں منہ کی راہ سے شراب داخل کرے اور ان کا عقیدہ ہے کہ خدا بھی ایسی شراب خواری کر سکتا ہے کہ بندہ جو کچھ کرے، خدا اپنے لیے کر سکتا ہے۔ اب اگر ان کا خدا جوف دار کھکل نہ ہو تو شراب کا ہے میں داخل کرے گا، منہ کا چھید نہ ہو تو شراب کا ہے سے پیے گا۔ تلف ہے ایسے جھوٹے معبود اور اُس کے عابدان مردود پر۔ اب معلوم نہیں کہ وہ تند

شراب ان کے خدا کی طاقت بڑھا کر پیٹ ہی میں پڑی گن لایا کرے گی یا اُس کا فضلہ موتھ کی راہ تے ہو جائے گا یا کوئی اور سوراخ بھی ہے جس سے باہر آئے گا۔ دیوبندی صاحبوں سے اس کا فتویٰ مطلوب ہے۔

۱۶۰ لاکھوں کروڑوں خدا کے پجاری پھر توحید مناتے یہ ہیں تکمیل ۵۱: یہ تصریح اگرچہ چھاپی ان بزرگوار خلیفہ اعظم گنگوہی صاحب نے مگر اس کے قائل سارے کے سارے دیوبندی اور سب وہابی ہیں کہ یہی اُن کے امام الطائفہ اسمعیل کی دلیل ذلیل کا حکم ہے کہ خدا اس پر قادر نہ ہو تو آدمی سے قدرت میں گھٹ رہے۔

دم ہے محمود حسن صاحب، خلیل احمد صاحب، تھانوی صاحب وغیرہم کسی دیوبندی یا وہابی مقلد یا غیر مقلد میں کہ اسمعیلی دلیل بنانے اُس پر سے یہ بھاری کفر اٹھانے کو اس کا جواب لاسکے اپنے کروڑوں خداؤں میں سے ایک بھی گھٹا سکے۔ کذلک العذاب و لعذاب الاخرة اکبر لو كانوا يعلمون۔

۱۶۱ سب خبریں قرآن کی جھوٹی پڑنی روا ٹھہراتے یہ ہیں اب تو الوہیت بھی سدھاری ڈھول سے کھال گناتے یہ ہیں تکمیل ۵۲: گنگوہی صاحب نے جس طرح براہین قاطعہ اٹیٹھی کے نام سے تصنیف کی جس کا پردہ خود اُن کے محرر نے کھول دیا۔ فتاویٰ گنگوہی حصہ ۲، صفحہ ۱۱۲ از محمد یحییٰ حضرت کی کتاب براہین قاطعہ میں یہ بحث مدلل ہے پھر مرثیہ گنگوہی کے آخر میں اسے صراحتاً تالیفات گنگوہی میں گنا۔ یوں ہی تنزیہ الرحمن کے رد کرنے کو یہ رسالہ تقدیس القدر ایک اور شخص کے نام سے شائع کیا۔ یہ شدید کفر اُس میں ہے اولاً صاف تصریح کہ یہ کلام اللہ کہ ہم پڑھتے ہیں اس کا جملہ جملہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ مسلمان جانتے ہیں کہ اُس کے کسی ایک جملے کو بھی ایسا سمجھنا قطعاً کفر ہے۔ واقول ثانیاً جھوٹ وہی بات ہو سکتی ہے جوئی نفسہ جھوٹ ہو، سچی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی تو فقط جواز

نہیں بلکہ قرآن کا جملہ جملہ فی الحقیقت جھوٹ ہوا۔ واقول ثالثاً جواز ہی دیکھیے تو اس کے جملوں میں ہو اللہ بھی ہے یعنی وہ اللہ ہے اس کا کذب بھی ممکن ہو یعنی جائز ہے کہ وہ اللہ نہ ہو اور جس کا اللہ نہ ہونا جائز اُس کا اللہ نہ ہونا واجب کہ اللہ کا اللہ نہ ہونا ہرگز جائز نہیں ہو سکتا تو ثابت ہوا کہ گنگوہی صاحب کے نزدیک اللہ اللہ نہیں اور قرآن کریم معاذ اللہ بالفعل جھوٹا ہے اور کیا کفر کے سر پر سینگ ہوتے ہیں۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ یہ ہے گنگوہی دھرم۔

۱۶۲ رب کا غضب ہو وحی سے پہلے کس کو ضال بتاتے یہ ہیں

۱۶۵ بلکہ کہا ایمان سے خالی لعنت ہو کیا گاتے یہ ہیں تکمیل ۵۳: جن آیتوں کا دھوکا دے کر گنگوہی صاحب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ شدید گالیاں دیں اُن کے معانی کی تحقیق شفا شریف امام قاضی عیاض و مواہب شریفہ امام احمد قسطلانی و مدارج شیخ محقق و تفسیر علمائے معتمدین میں دیکھیے یہاں اتنا کافی کہ ایمان سے مراد احکام تفصیلیہ ہیں کہ ان کا علم وحی سے ہو اور نہ حال ہے کہ کوئی نبی قبل از وحی مؤمن نہ ہو وہ پیش از وحی بھی نہ صرف ایمان بلکہ اُس اعلیٰ درجہ ولایت کبریٰ پر ہوتے ہیں کہ نہایت مدارج اولیا ہے اور ضال زبان عرب میں کمال محبت محبت میں سرگشتہ کو کہتے ہیں۔ خود ابنائے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد کریم نبی اللہ کی نسبت دو بار یہ لفظ بمعنی شدت محبت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام استعمال کیا ان ابانا لفی ضلال مبین ۵ تاللہ انک لفی ضلالک القدیم ۵ زنان مصر نے کہ اُس وقت تک ہدایت و ضلالت جانتی ہی نہ تھیں بوجہ عشق حضرت یوسف یہی لفظ حضرت زلیخا کو کہا قد شغفہا حبا انا لنرہا فی ضلال مبین ۵ ان تینوں آیتوں میں ضلال قطعاً بمعنی شدت محبت ہے یوں ہی اُس چوٹی میں تو معنی کریمہ یہ ہوئے کہ اللہ عزوجل نے تمہیں اپنی محبت میں والد و شیفہ پایا تو تمہیں اپنے وصال کی طرف راہ دی۔ مگر گمراہ بے ایمان کو سوا گمراہی و بے ایمانی کے

کیا سوچھے قاتلہم اللہ انی یؤفکون ۵ اور ایک ظلم یہ کہ ان دو آیتوں کے ساتھ کریمہ وان کنت من قبلہ لمن الغفلین ۵ بھی شمار کر دی اور اُسے معاذ اللہ ایمان سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غفلت قرار دیا حالانکہ وہاں ذکر قصہ یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہے کہ وحی سے پہلے تم اس سے آگاہ نہ تھے۔ نفس آیت اس پر دلیل ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغفلین ۵ اپنا کذب چھپانے کے لیے شروع سے آیت کتر لی یہ قرآن کریم میں خیانت و تحریف ہے واللہ لا یهدی القوم الظلمین ۵

۱۶۷۔ قبر ہے طور وہ رب یہ موسیٰ کیسے جنون پکاتے یہ ہیں تکمیل ۵۵: اس کفر صریح کو نادان بن کر ٹالا ہے، یعنی پاگل ہیں والپاگل مرفوع القلم یہ ہے حقیقی گور پرستی۔ وہاں شاید ایک وجہ شبہ خیال کی ہو طور پر تجلی ناری کی تھی کہ انس من جانب الطور نارا، اگر نار ہی گور گنگو ہی صاحب میں دیکھ کر حواس باختہ ہو کر یہ تشبیہ گڑھی ہو تو پبگلیت جائے دارد۔

۱۶۸۔ اس کے کالے غلاموں کو یوسف پاجی پن یہ دکھاتے یہ ہیں

۱۶۹۔ عبد نبی شرک اندھی کے بندے بن کے بہت اٹھلاتے یہ ہیں

تکمیل ۵۶: اقول اولاً۔ دنیاوی معاملات میں بنی نوع انسان میں سب سے ذلیل تر غلام ہے وہ بھی کالاجبشی۔ آزاد شخص کیسا ہی پاجی سا پاجی ہو غلام ہونے کو اپنی تو بہن سمجھے گا تو اس اجتہاد رجب کے پاجی پن کو اس مرثیہ گو نے کہاں جا کر ملایا، یہ نبی اللہ کی تو بہن ہے۔ ثانیاً اگر آج کل کسی کے غلاموں کو کہیے کہ اُس کا ایک ایک چھو کر پیچہ رشید احمد ثانی ہے تو کیا اسے رشید احمد کے لیے روار کھیں گے، ہرگز نہیں۔ مگر ان کے یہاں سب سے کم قدر اللہ کے رسول ہیں، اُن کے ساتھ جیسا چاہیں کھیلتے ہیں۔ حالانکہ طرفہ یہ کہ عبد النبی شرک۔ عبارت نمبر ۶۶ میں گزری اور عبد اللنگو ہی آنکھوں سکھ کلیجے ٹھنڈک۔ یہ کیسا شرک اجبث ہے۔

۱۷۰۔ اس کو محیی و مقہی کہہ کر عیسیٰ کو چونکاتے یہ ہیں

تکمیل ۵۷: اقول مسلمان ذرا ان تیوروں کو دیکھیں کہ ہمارے گنگو ہی نے مُردے

۱۶۶۔ مرسل لا ثانی کا ثانی گنگو ہی کو بناتے یہ ہیں تکمیل ۵۴: اس شعر نے صفحہ ۱۴ میں ان کی ایک گول بیت کا بھی پردہ کھول دیا کہ۔

جہاں تھا آپ کا ثانی وہیں جا پہنچے خود حضرت کہیں کیونکر بھلا کس منہ سے مولانا تھے لا ثانی

یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ رشید احمد ثانی بتایا ہے، یہ اُس سے اجبث کفر ہے اور اسی کا اشارہ اس کی متصل بیت میں ہے۔

دلوں کو جھانکتے ہیں اپنے اور سب مسکراتے ہیں

کہا جب میں نے مولانا رشید احمد تھے لا ثانی

بتا دیا کہ یہ کوئی ایسی ہی بات ہے جسے زبان تک صاف نہیں لاسکتے، دل ہی دل میں سمجھ کر مسکراتے ہیں کہ رشید احمد لا ثانی کیونکر ہوا اُس کا ثانی تو بانی اسلام ہے، یہ نہ تھا تو دلوں کو جھانکنے اور مسکرانے کے کیا معنی تھے۔ ہاں شعر اول میں ایک تاویل معقول ہے، جو اُسے کفر سے اسلام خالص کی طرف لے آئے، بشرطیکہ آپ پسند کریں اور اجازت دیں۔ ثانی بمعنی طرف ثانی یعنی ضد و مقابل ہے اور ہبل سے بھی یہی ثانی مراد اور اہل اہوا اُس کے معتقدین۔ کافر کی روح بھی اولاً طرف آسمان

زندہ کیے، زندے مرنے نہ دیے۔ ذرا ابن مریم یہ مسیحائی دیکھیں۔ رسول اللہ پر کیسی کھلی طنز ہے۔ جو کسی کمال میں مشہور ہو دوسرے کا کمال اُسے دکھانا کہ ذرا اسے دیکھیے اس میں غالب دو پہلو ہیں، اول تفصیل کہ دیکھو تم سے بہتر اس نے کر لیا، دوم اس کے دعویٰ یکتائی کا رد عام ازیں کہ وہ دعویٰ مطلق ہو یا اس دوسرے کے مقابل کہ تم آپ ہی کو سمجھتے تھے یہ دیکھو دوسرا بھی جو یا تم تو اس کے لیے اپنا سا کمال نہ جانتے تھے یہ دیکھو اس میں موجود ہے۔ زید کا تب ہے اور عمرو کے خط کو اُس سے بہتر بتانا نہیں نہ وہ اس کی کتابت کا منکر تو اُسے عمرو کا لکھا دکھانا کیا کہ ذرا اسے دیکھیے پہلے اول میں اُس پر تفصیل ہے دوم میں اُس کے دعوے کا ابطال اور یہ دونوں یہاں کفر ہیں بلکہ یہاں پہلوئے تفصیل ہی غالب ہے کہ حضرت مسیح دیکھیے آپ کا تو ایک ہی کام تھا مردوں کو زندہ کرنا یہاں دو ہیں مردوں کو جلا نا اور زندوں کو جیتا رکھنا۔ بہر حال ایہام میں کیا کلام۔ اب فتاویٰ گنگوہی حصہ ۳ صفحہ ۳۴ و ۳۵ ملاحظہ ہو کہ ایہام گستاخی سے خالی نہیں پس ان کا بکنا کفر۔ تفسیر ان دونوں مرثیوں میں غلط محاوروں، غلط بندشوں، غلط تقطیعوں کے علاوہ جن سے کھلتا ہے کہ با ایں بے ادراکی شعر کو تکلیف دینی اثر جنون تھی تفویت الایمانی و گنگوہی شرکوں کی بوچھاڑ ہے اور انبیاء کے ساتھ گستاخی تو اصل کار ہے مگر یہاں اسی قدر پر کہ قصیدہ نے مواخذہ کیا اقتصار ہے آگے خاص عالی جناب گنگوہی صاحب پر الہی محمدی مار ہے جل اللہ و علی رسولہ و الہ صلی اللہ۔

چھتیس اقوال خاصہ جناب گنگوہی صاحب

۱۷۳ علم غیب ایلین کو مانیں شہ کو کہو جل جاتے یہ ہیں
تکمیل ۵۸: اقوال گنگوہی صاحب نے بزعم خود مؤلف انوار ساطعہ مرحوم کا یہ زعم تراشا ہے کہ انہوں نے شیطان و ملک الموت میں یہ علم بتا کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کے لیے بر بنائے افضلیت ثابت مانا ہے۔ اس بنا پر کہا کہ مؤلف اپنے اس زعم پر بر بنائے افضلیت شیطان کے برابر تو اُن میں علم غیب ثابت کر لے۔ علم غیب کا لفظ مؤلف کے کلام میں نہ تھا اور جو علم مؤلف نے ثابت کیا اُسے خود گنگوہی نے شیطان کے لیے نصوص سے ثابت مانا اور خود اپنی طرف سے اُسے علم غیب کہا اور وہ واقعی اُن کے اور سب وہابیہ کے دھرم میں علم غیب ہے بلکہ بہت علوم غیب سے کروڑوں درجے زائد کہ اُن کے یہاں ایک پیڑ کے پتوں کی گنتی جان لینا علم غیب ہے، دیکھو نمبر ۱۰۳۔ ایک جلسہ نکاح پر مطلع ہو جانا علم غیب ہے، براہین قاطعہ گنگوہی صاحب صفحہ ۴۹ فقط مجلس نکاح کے اعتقاد علم میں کافر لکھا ہے تو علم محیط زمین تو کروڑوں علم غیب کا مجموعہ ہے۔ گنگوہی صاحب اسے فرماتے ہیں کہ شیطان کو علم غیب تو نص سے ثابت ہے اوروں میں بھلا اُس کے برابر تو ثابت کر دو، زیادہ ہونا تو بڑی بات ہے۔ اذناں کہتے ہیں کہ گنگوہی صاحب نے تو ذلیل و ناپاک علم شیطان کے لیے خاص کیے ہیں نہ کہ فضیلت والے سبحان اللہ۔ اولاً علم غیب فضیلت ہے یا ناپاک و ذلیل۔ فضیلت بھی ایسی کہ باری عزوجل کی صفات سے ہے۔ ثانیاً ملک الموت بھی تو شامل ہیں، کیا اُن کے علم بھی ذلیل و ناپاک ہیں ثالثاً خود گنگوہی صاحب اسی بحث میں لکھتے ہیں، صفحہ ۵۲ اگر نضر عالم علیہ السلام کو بھی لاکھ گونہ عطا فرما دے ممکن ہے مگر ثبوت اس کا کہ عطا کیا ہے کس نص سے ہے کیا ناپاک و ذلیل چیز میں آلودہ کرنے کو عطا کہتے ہیں؟ کیا ناپاک و ذلیل چیز کا امکان حضور کے لیے لاکھ گنا بڑھاتے ہیں۔

۱۷۶ جو اللہ کو جھوٹا مانے صالح اس کو گناتے یہ ہیں
تا کافر، گمرہ، فاسق کیسا کرا لفظ بچاتے یہ ہیں
۱۸۰ شافعی و حنفی کے مانند اس کا خلاف مناتے یہ ہیں
تکمیل ۵۹: دیکھا کہ امکان کذب کی ضلالت کہاں تک کھینچ کر لے گئی، قال اللہ

تعالیٰ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذباً اولئک یعرضون علی ربہم و یقول الا شہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنة اللہ علی الظالمین ۵ اُس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ کی تہمت رکھی یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ سنتے ہو اللہ کی لعنت ان ظالموں پر۔ یہ اصل فتویٰ گنگوہی کا مہری دستخطی اُن کے فتاویٰ کے معروف خط کا لکھا ہوا موجود ہے، اس کے عکس لیے گئے۔ ایک نوٹو سرکارِ مدینہ طیبہ میں ہے، کئی ہندوستان میں ہیں۔ اول بار ربیع الآخر ۱۳۰۸ھ میں خاص میرٹھ میں کہ اُس وقت انہیں کی قلمرو میں تھا چھپ کر شائع ہوا، اس پر مواخذات ہوا کیے اس کے بعد پندرہ برس گنگوہی صاحب بقید حیات رہے۔ ۱۳۲۳ھ میں مرے، کبھی نہ کہا کہ یہ فتویٰ میرا نہیں۔ اب اُن کے مرنے کے بعد اذنا ب مکر ہیں اور اُن کے فتاویٰ میں ایک فتویٰ بھی داخل کر لیا ہے کہ جو وقوع کذب مانے کا فر ہے مگر اس سے کیا فائدہ یہ گنگوہی صاحب کی ہی تکفیر تو ہوئی، تم نے خود نہ کی، اُن کے منہ سے کرائی کہ اتم و ابلیغ ہو۔ لطف یہ کہ وہ فتوے ۱۳۰۸ھ کا ہے اور یہ ۱۳۰۸ھ کا تو وہ اگر تھا بھی اس سے منسوخ ہو گیا۔ مسلمانو! اللہ انصاف او لا اتنا عظیم انجست گندا کفر کہ آج تک کسی ہندو، مجوسی، آریہ، یہودی نے بھی نہ بکا ہوگا کہ اُس کا معبود جھوٹا کذب ہے، گنگوہی صاحب کی نسبت شائع ہو اُس کے رد ہوں اُس پر گنگوہی صاحب کی تکفیریں ہوں اور گنگوہی صاحب ۱۵ برس جیئیں اور اصلاً انکار نہ کریں کوئی عاقل اسے قبول کر سکتا ہے؟ اگر اس میں ایک حرف کا بھی اُن کی اصل تحریر سے فرق ہوتا جس سے اُن پر اتنا موٹا کفر آتا چیخ پڑتے، اشتہار پر اشتہار شائع کرتے کہ یہ مجھ پر افترا ہے، میرے اصل فتوے میں یہ تھا اُس کو یوں بنا لیا ہے نہ کہ سارا فتویٰ۔ اتنے خبیث کفر کا کہ کسی پادری یا آریہ سے بھی اُس کی نظیر نہ ملے گنگوہی صاحب کے نام سے شائع ہو اُس پر رد ہوں، تکفیریں ہوں اور گنگوہی صاحب پندرہ

برس چپ رہیں اور اسی خاموشی کو لیے ہوئے شہرِ شوشاں چل بسیں۔ جب تک وہ بقید حیات رہے اہالی و موالی بھی خاموش در خواب خرگوش جب وہ بقید ممات ہوں تو اب یہ شگوفہ کھلے کہ فتویٰ اُن کا نہیں اس سے تو یہی آسان تھا کہ کہہ دیتے، گنگوہی صاحب تھے ہی نہیں لوگوں نے انیاب اغوال کی طرح ناحق کا ایک ہیوٹی بنا رکھا ہے یوں نہ صرف اس کفر بلکہ تمام کفروں، ضلالتوں کا ایک ساتھ فیصلہ ہو جاتا۔ ثانیاً ذرا

انصاف درکار

ع نہاں کے مانند آں رازے کز و سازند محفلہا

گنگوہی صاحب نے براہین صفحہ ۲ میں لکھا امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا بلکہ قدمائے اختلاف ہوا ہے کہ خلف و عید آیا جائز ہے یا نہیں۔ پس اس پر طعن کرنا پہلے مشائخ پر طعن کرنا ہے۔ امکان کذب و عید کی فرع ہے۔ پھر اپنے رسالہ تقدیس صفحہ ۷۸ میں کہا جواز وقوعی میں بحث ہے صفحہ ۷۹ گنگوہی جواز وقوعی میں ہے نہ جواز امکانی میں صفحہ ۲۴ جواز وقوعی کا بعض اثبات کرتے ہیں اور خود ہی جواز وقوعی کے معنی بتائے صفحہ ۱۹ مراد جواز سے دو معنی ایک جواز وقوعی جس کے وقوع سے کوئی استحالہ لازم نہ آئے ظاہر ہوا کہ قدمائے خلف و عید کے جواز وقوعی میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ جائز الوقوع مانتا ہے جس کے وقوع میں کوئی استحالہ نہیں اس پر طعن پہلے مشائخ پر طعن ہے۔ اب اسی تقدیس کا صفحہ ۲۱ دیکھیے کذب جنس ہے اور خلف و عید ایک نوع اُس کی ہے اور یہ میزان منطق دان بھی جانتا ہے کہ ثبوت نوع سے ثبوت جنس لازم و واجب ہے پس یہ فرمانا کہ جواز خلف و عید کے معتقد جواز کذب کے معتقد نہیں طرفہ فقرہ ہے کیا پہلے علمائے متکلمین کو کوئی ایسا گمان کر سکتا ہے کہ نوع کے وجود کے قائل ہو کر جنس کے عدم کے قائل ہوں پس پُر ضروری ہے کہ وہ لوگ جواز کذب کے قائل ہوں گے اور یہ وہی مضمون ہے کہ ابتداءً براہین قاطعہ میں ہے کہ خلف و عید میں علمائے متقدمین کا اختلاف ہوا ہے اور امکان

خلف کی امکان کذب فرع ہے یعنی کذب جنس ہے اور خلف وعید نوع اس کی۔ دیکھیے
 کیسی صاف تصریح ہے کہ اُن قدما کا مذہب یہ ہے کہ کذب الہی کے وقوع میں کچھ
 استحالہ نہیں اس پر طعن پہلے مشائخ پر طعن ہے یہ سب تمہاری مشہور چھپی ہوئی کتابوں
 میں ہے اسی کو اُس فتوے گنگوہی میں یوں کہا اُس کو کافر یا بدعتی ضال کہنا نہ چاہیے
 کیونکہ وقوع خلف وعید کو جماعت کثیرہ علمائے سلف کی قبول کرتی ہے اور واضح ہے کہ
 خلف وعید خاص ہے اور کذب عام ہے اور وجود نوع کا جنس کو تسلیم ہے لہذا وقوع
 کذب کے معنی درست ہو گئے۔ دیکھیے وہی مضمون، وہی دلیل ہے جو اب تک تم اپنی
 چھپی ہوئی کتابوں میں لکھ رہے ہو فرق صرف یہ ہے کہ یہاں وقوع کذب الہی پر کوئی
 استحالہ نہ مانا وہاں نفس وقوع مانا دونوں کفر یقینی قطعی اجماعی ہونے میں یکساں ہیں پھر
 یہ فرق بھی فقط لفظوں میں ہے حقیقتاً اتنا فرق بھی نہیں خلف وعید بمعنی عفو ہے ولہذا
 مجوزین اُسے اللہ عزوجل کا کرم و فضل بتاتے ہیں۔ تقدیس میں خود اس کی تصریح ہے
 صفحہ ۲۳ شرط نہ ہو تب بھی خداوند کریم خلف پر قادر ہے مثلاً توبہ نہ کرے تب بھی عفو
 مقدور ہے ایضاً قائلان جواز کی طرف سے نقل کیا کہ وقوع خلف جائز ہے اس لیے
 کہ مغفرت عاصی مکرمت ہے اور وہ حسن ہے۔ دیکھو عفو و مغفرت کا نام خلف رکھا اور
 عفو و مغفرت یقیناً واقع ہیں اور وہ اُسی فتوے کی طرح یہاں بھی صاف کہہ چکا کہ
 کذب جنس ہے اور خلف نوع اور یہ کہ ثبوت جنس سے ثبوت نوع لازم و واجب ہے
 تو کیسا بے پردہ کہا کہ اُن قدما کا مذہب یہی ہے کہ کذب الہی واقع ہے وقوع کذب
 کے معنی درست ہو گئے۔ اس پر طعن پہلے مشائخ پر طعن ہے اُس فتوے نے اور کیا زہر
 گھول دیا جس پر ہائے وائے چھاؤ تمہاری چھپی ہوئی کتابیں ڈنکے کی چوٹ پر وہی
 کہہ رہی ہیں جو اُس فتوے میں ہے۔ ثالثاً دیوبندی رسالہ اسکاٹ الامتدی صفحہ ۳۱
 تاویل سے اس شخص کا مذہب جو جواز الخلف فی الوعد کا قائل ہے نہیں بدل سکتا
 فتوے اُس کے باب میں مقصود ہے کہ وہ وقوع کذب کا قائل ہو کر کافر ہوا یا نہیں علی

ہذا القیاس صاحب مساریہ نے جو اکابر اشاعرہ کا مسئلہ نقل کیا ہے وہ لوگ بھی وقوع
 کذب کے قائل ہوئے یا نہیں ان کی نسبت کیا حکم ہے دیکھیے صاف بتا رہا ہے کہ
 اکابر اشاعرہ اور وہ قدما وقوع کذب الہی کے قائل ہیں پھر
 ع نمودار چیزیں چھپانے سے حاصل

سبحان اللہ فتوے کا وہی گنگوہی معروف خط وہی دستخط وہی مہر وہی طرز عبارت
 اور پندرہ سال تک گنگوہی سکوت اور اُن کے جیتے جی سب اذنا ب بھی ساکت و
 مبہوت اس سب پر خاک ڈالی جائے تو تمہاری کتابیں بے پردہ و بے حجاب وہی
 گارہی ہیں۔ وہی مضمون وہی دلیل پھر انکار آفتاب سے کیا حاصل
 ع کفر نوشتہ نتواند سترو

كذلك العذاب وللعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون ۰

۱۸۱! مجھ کو بھائی کہو کی تہمت مولیٰ تجھ پر اٹھاتے یہ ہیں
 اپنے ہی منہ ملعون ہوئے خود نار میں دار چھواتے یہ ہیں
 لعن ابلیس پر اوروں کے منہ سے اپنے ہی منہ کی پاتے یہ ہیں
 تکمیل ۶۰: اللہ اکبر یہ صریح جھوٹ یہ قبیح افترا اور وہ بھی کس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم پر افسوس جبک الشیء یعمی و یصم اسمعیل کی محبت اور محمد رسول
 اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اُس کی حمایت نے ایسا اندھا بہرا کر دیا کہ
 گنگوہی صاحب کو اسی حصے صفحہ ۱۲۵ کا خود اپنا لکھنا نہ سوجھا کہ واضح ملعون ہے کہ فخر
 عالم علیہ الصلاة والسلام پر تہمت کرتا ہے ایضاً صفحہ ۱۲ واضح ملعون ہے رسول اللہ صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متواتر حدیث میں فرماتے ہیں جو مجھ پر دانستہ جھوٹ باندھے اپنا
 ٹھکانہ جہنم میں بنالے فتاویٰ گنگوہی حصہ ۱، صفحہ ۲۷ حدیث صحیح ہے کہ جب کوئی کسی پر
 لعنت کرتا ہے اگر وہ شخص قابل لعن کا ہے تو لعن اُس پر پڑتی ہے ورنہ لعنت کرنے
 والے پر رجوع کرتی ہے۔ یہاں گنگوہی صاحب واضح کو ملعون کہہ رہے ہیں اور

آپ حدیث وضع کر رہے ہیں تو خود ہی اپنے کو ملعون کہہ رہے ہیں اب اگر ابتداءً اس قابل تھے براہ راست پڑی ورنہ پلٹ کر بہر حال اُن کی انھیں پر رہی۔

۱۸۳ باپ کو اپنا قریب بتانا گستاخی ٹھہراتے یہ ہیں شاہ رسل کو بھائی کہنا ماں کا دودھ بناتے یہ ہیں

مجمیل ۶۱: مسلمانو! سن چکے کہ حاجی امداد اللہ صاحب کی نسبت اتنا کہنے پر کہ ہم اُن سے ملے گنگوہی صاحب کیسے بپھرے حالانکہ یہ کوئی ایسا لفظ بھی نہ تھا اللہ عزوجل اپنے مقبول بندوں کا ذکر فرماتا ہے یظنون انہم ملاقوا ربہم انہم یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب لقاءہ جو اللہ سے ملنے کو دوست رکھے اللہ اُس کا ملنا دوست رکھے اس پر فقہ یاد آئی کہ جو باپ کو اپنا قریب کہے عاق ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہنا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی یہ نہ عاق ہونا ہوانہ بے سعادت۔ بلکہ اس کے بنانے کو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بہتان اٹھا کر حدیث گڑھی۔ کیونکہ یہ سب سے بڑے مذہبی باپ اسمعیل جی کی کہی ہوئی تھی۔ ایمان ہوتا تو یہیں سمجھ لیتے کہ وہ ناسعدت مندی تھا تو یہ بے ایمانی وہ عاق ہونا تھا تو یہ کافر ہونا مگر جب رسول کی قدر باپ سے کم بڑے بھائی کے برابر ہے تو آپ ہی یہ اعتراض عائد نہیں ہوتا کہ وہ مسئلہ تو پدرو پیر کے باب میں تھا بڑے بھائی کا رتبہ اتنا کہاں وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ۵

۱۸۴ مٹی میں ملنا مٹی سے ملنا ایک ہے یوں چندراتے یہ ہیں پیٹھ رسول اللہ کو دے کر کیسی اوندھی گاتے یہ ہیں

مجمیل ۶۲: اقول اسمعیل کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین درست کرنے کو کیسی صریح بے ایمانی کی کہ مٹی سے متصل ہو جانا مٹی میں ملنا کہلاتا ہے۔ حاشا محض جھوٹ او لا ہر مکان کی دیواریں مٹی سے متصل بلکہ بنیاد تک مٹی کے اندر

داخل ہوتی ہیں پھر جب سلطانی قلعہ بن کر تیار ہو کوئی مجنون ہی کہے گا کہ سارا قلعہ مٹی میں مل گیا۔ ثانیاً روپیہ زمین پر رکھیے تو کوئی نہ کہے گا کہ روپیہ مٹی میں مل گیا اور چاندی کا برادہ خاک میں گر کر خلط ہو جائے اُسے کہیں گے کہ چاندی مٹی میں مل گئی ثانیاً گنگوہی صاحب جب زمین پر بیٹھتے ہوں گے تو اُس وقت اُن کے نیچے مٹی سے جسد مع پا جامہ ملا حق ہوتا تھا مگر کوئی نہ کہتا کہ گنگوہی صاحب مٹی میں مل گئے نہ مرنے کے بعد چند روز تک یہ کہا جاتا ہاں اب کہ ایک جگہ بیت گیا اور اُن کا بدن گل کر مٹی میں خلط ملط ہو گیا اب کہا جائے گا کہ گنگوہی صاحب مٹی میں مل گئے۔ رابعاً سے اور میں میں فرق نہ کرنا کیا مطلب کے لیے بھولا بن جانا ہے۔ اگر کسی کا لٹھا گنگوہی صاحب کے پاس امانت ہو اور اُن سے گم جائے تو یہ کہا جائے گا کہ لٹھا اُن سے غائب ہو گیا یا یہ کہ لٹھا اُن میں غائب ہو گیا۔ آپ کے نزدیک دونوں طرح کہلاتا ہے کچھ اعتراض نہیں انا للہ وانا الیہ راجعون ان کے یہاں یہ وقعت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ اُن کی شان میں گالی کو کیسے کیسے پھیل بیچ سے ٹھیک کیا جاتا ہے اور پھر دعویٰ ایمان باقی ہے سبحن اللہ یہ منہ اور یہ دعویٰ۔

۱۸۵ استمداد کریں شیطان سے شرک نبی سے بتاتے یہ ہیں

مجمیل ۶۳: اقول اولاً شیطان سے استمداد کا جواز ثانیاً نبی پر اُس کی تفصیل کہ ان سے شرک اور اُس سے جائز۔ ہاں کیوں نہ ہو اوپر سن چکے کہ شیطان ہی اُن کا حق تعالیٰ ہے۔ فتاویٰ چھاپنے والے نے یہاں چالاکی یہ کی ہے کہ سوال اڑا دیا نرا جواب نقل کیا مگر بات مشہور ہے چھپائے کیا چھپتی مثالاً شیطان سے درخواست مفید سمجھنا اُس سے فائدے کی توقع ہے اور نمبر ۳ میں اسمعیلی حکم سن چکے کہ نفع کی امید اور سے کرنا شرک ہے۔ افسوس کہ دونوں طرف سے مارے پڑے ازیں سوراندہ وزاں سو ماندہ۔

۱۸۸ فاتحہ میں قرآن کی تلاوت وید پڑھتے سناتے یہ ہیں

قرآن وید ہے قاری پنڈت یہ تشبیہ جماتے یہ ہیں
 تکمیل ۶۴۔ اقول اولاً قطع نظر اس سے کہ اس کا حاکی ایک وہابی اور رب عزوجل
 فرماتا ہے: یا ایہا الذین امنوا ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا اے ایمان والو!
 اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لو۔ نہ کہ وہابی گمراہ اور وہ
 بھی اُس مسئلہ میں جو متعلق بہ وہابیت ہے جس میں وہ مہتمم ہے۔ اگر بعض ہنود ایسا کرتے
 ہوں تو بہت رسمیں ہندوؤں نے مسلمانوں سے سیکھی ہیں۔ یہ ثبوت تیرے ذمے ہے
 کہ اس کے اصل بانی ہنود ہیں۔ یہ فطری بات ہے کہ سلطنت کا رعیت، فاتح کا
 مفتوح پر اثر ہوتا ہے۔ مسلمان ہندوستان میں فاتح ہو کر آئے اور صد ہا سال سلطان
 و حکمران رہے۔ ہندوؤں کے روزمرہ میں بکثرت الفاظ عربیہ داخل ہو گئے، طرز
 معاشرت میں بھاری تبدیلیاں ہوئیں۔ اُن میں سے یہ بھی انہوں نے مسلمانوں
 سے لیا ہو تو کیا محال ہے۔ ثانیاً اسے اُن کا شعار کہنا صریح جھوٹ ہے۔ کسی قوم کا
 شعار وہ جس سے اُن کی پہچان ہو اور اُن میں اور اُن کے غیر میں اُس سے امتیاز کیا
 جاتا ہو۔ یہاں شعاریت اگر ہے تو وید پڑھنے سے کوئی وہابی اگر تمہاری فاتحہ میں
 پنڈت سے وید پڑھوائے اُسے منع کرنا کہ تو شعار ہنود کا مرتکب ہو۔ مسلمانوں کا حال
 آپ کو معلوم نہیں وہ قرآن عظیم پڑھتے ہیں، وید پڑھنا ہنود کا شعار تھا تو قرآن عظیم کی
 تلاوت خاص شعار اسلام ہے۔ اس زمین و آسمان کے فرق کے بعد بھی تشبیہ رہے تو
 روزے اور حج بھی ممنوع ہوں خصوصاً نافلہ کہ برت اور تیرتھ سے تشبیہ ہوگا۔ سورج
 گہن اور چاند گہن کے وقت تصدق کرنا بھی ممنوع ہو کہ ہندوؤں کا شعار ٹھہرے گا۔
 یہاں تو ایسا کوئی فرق بھی نہیں بخلاف فاتحہ کہ اُس میں رسم ہنود سے تشبیہ اُسی کو سوجھے
 گا جو قرآن کریم و وید میں فرق نہ کرے گا یا یہ احکام شرعیہ از انجا کہ برخلاف حکم من
 تشبیہ بقوم فهو منہم ہیں خلاف قیاس ٹھہر کر مورد پر مختصر رہیں گے۔ ثالثاً اپنا
 فتاویٰ حصہ اول صفحہ ۷۱ یاد رہے ٹوپی نصرانیوں کی یا کرتے یا پتلون شعار کفر نہیں بلکہ

لباس اُس قوم کا ہے اُن کا پہننا ہندوستان میں تو تشبیہ ہے اور اُس ملک میں کہ وہاں
 مسلمانوں کا بھی یہی لباس ہے وہاں گناہ بھی نہیں کہ وہاں یہ لباس شعار نصاریٰ
 نہیں۔ سبحن اللہ وہاں کوٹ پتلون ہیٹ تک شعار نصاریٰ نہیں حالانکہ بعینہ شئی
 واحد ہے اور یہاں کہ صد ہا سال سے تمام مسلمانوں میں فاتحہ کا رواج ہے جسے شاہ
 عبدالعزیز صاحب تحفہ میں تمام اُمت کا معمول بتاتے ہیں شعار ہنود ہو گیا اور قرآن و
 وید کا بھی فرق معطل رہا۔ رابعاً مدرسہ دیوبند کیوں نہ حرام و فسق و تشبیہ ہنود ہوا بالکل
 اُن کا پاٹ شالا ہے وہی مقصد، وہی مدرس، وہی طلبہ، وہی درس، وہی سالانہ جلسے،
 وہی امتحان، وہی فیل پاس، وہی انعام اور اس فرق کا کیا لحاظ کہ تم قرآن مجید اور اُس
 کے متعلقات پڑھاتے ہو اور وہ وید اور اُس کے متعلقات۔ اس فرق نے فاتحہ میں کیا
 کام دیا جو یہاں دے گا۔ خامساً تمہارا امام الطائفہ صراط مستقیم میں اجتماع طعام و
 قرآن خوانی کو بہتر لکھ گیا کہ میت کو ثواب پہنچانا کھانے پر موقوف نہ رکھیں ہاں میسر
 ہو تو بہتر نہ صرف فاتحہ و قل کا ثواب سب سے اعلیٰ ہے اور اپنے رسالہ ذبیحہ مندرجہ
 زبدۃ النصح صفحہ ۱۰۵ میں کہتا ہے اگر بکرا گھر میں پالے تاکہ اُس کا گوشت اچھا ہو
 اُسے ذبح کر کے پکا کر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاتحہ پڑھ کر کھلائے کچھ
 حرج نہیں۔ اب اُسے حرام کی طرف منسوب کرو، تشبیہ ہنود کی آگ میں جھونکو۔ آپ
 کے نزدیک یہ کیسا پنڈت بنا ہوا کھانے پر وید پڑھنت کر رہا ہے اور سنیے شاہ عبدالعزیز
 صاحب کے فتاویٰ صفحہ ۷۵ میں ہے جو کھانا حضرات امام حسن و امام حسین رضی اللہ
 تعالیٰ عنہما کی نیاز کا ہوتا ہے اور اُس پر فاتحہ اور قل اور درود شریف پڑھتے ہیں وہ تبرک ہو
 جاتا ہے، اُس کا کھانا بہت اچھا ہے۔ اب اپنی ہندوانی رسم کی خبریں کہیے۔

۱۹۱ شہ کا رحمت عالم ہونا ہر ملے کو دلاتے یہ ہیں
 یعنی یہ بھی ہیں رحمت عالم ملے خود کہلاتے یہ ہیں
 تکمیل ۶۵: اقول علم حقائق تو اہل حقائق کو دیتے ہیں اور اُن کے طفیل میں اُن کے

غلام اُس سے حصہ لیتے ہیں۔ اس کا بیان ہو تو سب پر عیاں ہو کہ اپنے ہر مثلًا کو اس عظیم خاصہ جلیلہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم وسلم میں شریک کرنا وہی تقویت الایمان والی بات ہے کہ بادشاہ کا تاج ایک چمار کے سر پر مگر باطن کی پھوٹ جانے والے کیا اول دن سے ظاہر کی بھی پھوٹی ہی لائے تھے۔ یہ رحمت بذریعہ رسالت ہے کہ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ہم نے تمہاری رسالت نہ کی مگر سارے جہاں کے لیے رحمت۔ تو رحمة للعالمین نہ ہوگا مگر وہ کہ رسول الی العالمین ہو تمام جہاں کو اُس کی رسالت عام ہو اور وہ نہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لہذا اور انبیا بھی اس وصف کریم میں حضور کے شریک نہیں ہو سکتے۔ خود حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان النبی یبعث الی قومہ خاصة وبعثت الی الخلق کافة ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا اور میں تمام جہاں کی طرف بھیجا گیا۔ ائمہ کرام نے اس وصف کریم سے حضور کی تفصیل مطلق ثابت فرمائی ہے مگر وہابیہ کے یہاں تو حضور میں رسالت سے اوپر کچھ نہیں (دیکھو نمبر ۱۳) وہ کیونکر اسے حضور کی صفت خاصہ مانیں اور پھر فقط رسولوں ہی کے لیے تعیم نہیں بلکہ ہر مثلًا شریک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھہرا دیا۔ یہ شان اقدس میں کتنا بھاری شرک ہے۔ خدا کی شان امرتسرا ایک طاعیہ قرآن کو پس پشت ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمة للعالمین ہونے ہی سے منکر ہے۔ گنگوہ کا طاعیہ اُسے مانتا ہے تو یوں کہ ہر مثلًا اُس میں شریک حضور ہے۔ غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل مٹانے سے کام ہے خواہ یوں کہ سرے سے انکار کر دیں یا یوں کہ اُن کو گلی گلی مبتذل کر کے فضل نہ رکھیں اور پھر اسلام کا دعویٰ باقی واللہ علیہم بالظالمین ۵

۱۹۲ فضل شہ میں بخاری و مسلم سب مردود بتاتے یہ ہیں
مکمل ۶۶: اقوال دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُن کی وسعت علم کہاں تک
مٹائیں۔ بخاری مسلم کی حدیثوں پر پانی پھیر دیا۔ اللہ واحد قہار فرماتا ہے نزلنا

علیک الکتب تبیاناً لکل شیء ہم نے تم پر قرآن اتارا ہر چیز کا روشن بیان کر دینے کو اور فرماتا ہے وعلمک مالک تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیماً ۵ تمہیں بتا دیا جو کچھ تمہیں معلوم نہ تھا اور اللہ کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ براہین قاطعہ گنگوہی صفحہ ۳۰ لفظ ما فرمایا ہے کہ لفظ عموم کا ہے۔ صفحہ ۳ لفظ عام کے معنی خاص لینے کا کوئی قاعدہ نہیں۔ آیات کی زیادہ بحث الدولۃ المکیہ میں ملاحظہ ہو۔ ان کا کیا علاج ہوگا سو اس کے کہ ولكن الظالمین بآیت اللہ یجحدون ۵
۱۹۳ نقص کو ایک بے اصل روایت اپنی برہان لاتے یہ ہیں

۱۹۳ راد کو اُس کا راوی گائیں کیا بے پر کی اڑاتے یہ ہیں
مکمل ۶۷: اس بے ایمانی کو دیکھیے ابلیس کا علم تو تمام زمین کو محیط مانا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیوار پیچھے کے حال سے بھی بے خبر ٹھہرانے کو کیسی مردود روایت پیش کی اور شیخ محقق نے اُس کا رد کیا تھا۔ اُن کے سر اُس کی روایت دھردی۔ قرآن میں سے نرا لا تقر بوا الصلوۃ بھی ایسے ہی لوگ لیا کرتے ہیں بلکہ بلحاظ مقصود یہ اُن سے درجوں بدتر۔ اُن کی غرض نماز کی محنت نہ جھیلنا ان کی مراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل چھپانا۔

۱۹۵ تقویت الایمان کا پڑھنا عین اسلام بناتے یہ ہیں
یوں قرآن سے اُس کو بڑھا کر جب تک کفر منجھاتے یہ ہیں
عبد عزیز تک ایماں کب تھا اسلام آج پھلاتے یہ ہیں

مکمل ۶۸: گنگوہی عبارت اور ان دعویٰ کا بیان سُن چکے، اس پر بڑھ سے بڑھ مبالغہ کا عذر ہوگا۔ اقوال اولاً فتویٰ اور شاعرانہ مبالغہ وہ بھی کفر خالص تک ثانیاً گنگوہی صاحب سے کسی کو قبلہ لکھنے کے بارے میں سوال ہوا تھا۔ جواب دیا حصہ ۲، صفحہ ۱۸۹ ایسے کلمات مدح کے کسی کی نسبت کہنے اور لکھنے مکروہ تحریمی ہیں لفظ اولہ علیہ

السلام لا تطرونہی جب زیادہ حدشان نبوی سے کلمات آپ کے واسطے ممنوع ہوئے تو کسی دوسرے کے واسطے کس طرح درست ہو سکتے ہیں اور یہ بددینی دیدنی رحمۃ للعلمین تو زید و عمر کو کہنا جائز اور قبلہ کہنا حرام۔ قبلہ کی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ ٹھہری حالانکہ بحکم حدیث صحیح ہر مومن کی عظمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کعبہ معظمہ سے زائد ہے۔ ثانیاً زید و عمر کو رحمۃ للعلمین کہنا مسلمانوں کا عرف نہیں اور معظمان دین کو قبلہ و کعبہ کہنا عرف شائع ہے مگر خود سبیل المؤمنین کا خلاف ہی منظور تھا۔ حضرت شیخ مجدد کے مکتوبات، جلد ۲، مکتوب ۳۰ میں ہے جماعۃ بیدولت قبلہ توجہ را از شیخ خود منحرف سازند بڑے صاحبزادے نے شیخ مجدد کو عرض داشت دوم میں لکھا جلد ۱، صفحہ ۲۵۹ آں ذات کعبہ مرادات پھر لکھا آں قبلہ عالمیان غضب یہ کہ تینوں عرضداشتوں کا خاتمہ والسلام کی جگہ والعبودیت پر ہے۔

اب تو شرک کا پانی سر سے تیر ہو گیا قبلہ و کعبہ کی کیا شکایت۔
کسی کو قبلہ و کعبہ کہہ کا کیا شکوہ جناب قبلہ و کعبہ پہ شرک جاری ہے

لطف یہ کہ محمود حسن دیوبندی نے خود گنگوہی مرچھے میں کہا صفحہ ۱۰۔

حوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یارب

گیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی

(ایضاً صفحہ ۶)

ع ہمارے قبلہ و کعبہ ہو تم دینی و ایمانی

گروہاں تو ٹھہری ہوئی ہے۔ یجوز للوہابی ما لا یجوز لغيرہ۔

۱۹۶ نیت اجر کا اہل ہے کافر کفر کو کیا چکاتے یہ ہیں

مکمل ۶۹: اس سے بڑھ کر خانگی شریعت سینے حصہ ۲، صفحہ ۳۰ سوال نصرانی یا ہندو وغیرہ مسجد بنا دے تو اُس میں نماز کا کیا حکم ہے ثواب ہوگا یا نہیں؟ اُس مسجد کو حکم مسجد کا

ہے یا نہیں؟

الجواب: جس کافر کے نزدیک مسجد بنانا عمدہ عبادت کا کام ہے اُس کے مسجد بنانے کو حکم مسجد کا ہوگا۔ ع تو مسجد اے فارغ از عقل و دین۔

یہ ہمارے اُس قول کی تائید کرتا ہے کہ۔

ہندو کو کیا اہل سمجھتے ☆ اپنی وال گلاتے یہ ہیں

ظاہر ہے کہ کھلے مجاہد کافر جن کو صراحتہ کلمہ طیبہ و نام اسلام سے انکار ہے اُن میں کوئی ایسا نہیں کہ مسلمانوں کی مسجد بنانے کو عمدہ عبادت کا کام جانے ہاں دیوبندی مت گنگوہی دھرم والے ایسے ملیں گے کہ کافر بھی ہیں اور مسجد بنانے کو عبادت کا کام بھی کہیں یہ ڈھائی گھڑی رات اپنے اور اُن کے لیے لگا رکھی۔

۱۹۷ یہ ہیں مفید نبی کو جو سمجھے اُس پر شرک اوندھاتے یہ ہیں

مکمل ۷۰: اقول یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ دانیال علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بے عطائے الہی مفید بالذات ماننے کو شرک کہا ہے کہ اگر خود دانیال کو مفید عقیدہ کرے حاشا یہاں

خود کے معنی بالذات بے عطائے خدا نہیں کہ اول تو ایسا نہ کوئی مسلمان سمجھے نہ سمجھ سکے

پھر تقویت الایمان نے کہ گنگوہی صاحب کے نزدیک کلام اللہ سے بڑھ کر ہے۔ اس

فرق ذاتی و عطائی کی جڑ کاٹ دی صفحہ ۷ اُن کو اللہ نے کچھ قدرت نہیں دی نہ فائدہ

پہنچانے کی نہ نقصان کی ایضاً۔ تمام آسمان و زمین میں کوئی ایسا سفارشی نہیں کہ اُس کو

مائیے اور اُس کو پکاریئے تو کچھ فائدہ یا نقصان پہنچے صفحہ ۱۱ پھر خواہ یوں سمجھے کہ اُن

کاموں کی طاقت اُن کو خود بخود ہے خواہ یوں کہ اللہ نے قدرت بخشی ہر طرح شرک

ہے صفحہ ۳۵۔ کچھ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے ایضاً۔ عاجز اور ناکارے گنگوہی

دھرم میں اُس کے سب مسئلے صحیح ہیں تو وہ قطعاً اُن کو بے عطائے الہی بھی مفید جاننے کو

شرک کہہ رہے ہیں۔ اس عبارت گنگوہی پر چار روڈ ۱۹۷ تا ۱۹۹ میں سن چکے۔

واقول خامساً گنگوہی صاحب اس میں صرف ارتکاب مکروہ بتاتے اور اُسے بھی

بسبب ضرورت مباح کراتے ہیں اور اُن کے قرآن تقویت الایمان صفحہ ۶ میں ہے

کوئی مشکل کے وقت کسی کی دوہائی دیتا ہے غرض جو کچھ ہندو اپنے بتوں سے کرتے ہیں وہ سب کچھ یہ جھوٹے مسلمان اولیا انبیا سے کر گزرتے ہیں اور دعوے مسلمانانہ کیے جاتے ہیں، سچ شرک میں گرفتار ہیں۔ اب گنگوہی صاحب سچ مشرک اور جھوٹ مسلمان ہوئے یا نہیں۔ سادسماً حدیث میں خاص اُس وقت کا ذکر نہیں جب شیر سامنے آجائے بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جب تو ایسے جنگل میں ہو جہاں شیر کا اندیشہ ہے۔ کیا اگر کافر نہ سامنے ہو، نہ ڈرائے دھمکائے صرف اس اندیشہ سے کہ شاید کوئی کافر آکر دھمکائے تو یہ کر کے کفر بولتے رہیے گا۔ سابعاً اس کی کیا شکایت کہ آپ کے نزدیک امام کمال الدین دمیری و امام ابن السنی و حضرت عبداللہ بن عباس و حضرت مولیٰ مشکل کشا سب جادو سکھانے والے ہوئے کہ اوپر گزرا کہ آپ کے یہاں اُمت سے رسولوں تک، بندوں سے اللہ تک سب پر حکم شرک ہے اینہم بر علم۔

۲۰۰ و ۲۰۱ شرک مباح ہے بلکہ ہے سُنّت فعل رسول بتاتے یہ ہیں تکمیل ۱۷۱: اقول اور لطف یہ کہ گنگوہی صاحب کا بعض شرک کو مباح اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صادر ماننا اولاً یہ اُس کی توجیہ میں ہے کہ آدم و حوا علیہما الصلاۃ والسلام نے بیٹے کا نام عبدالحارث رکھا، حارث کا بندہ۔ آپ اس کو شرک مباح کہہ رہے ہیں۔ ثانیاً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلف بغیر اللہ کو بھی شرک جانتا رہا ہے اور آپ کے قرآن تفویض الایمان میں دونوں باتوں پر کھلا حکم ہے کہ جھوٹے مسلمان سچ مشرک۔ صفحہ ۶ و ۷ کوئی بیٹے کا نام عبدالنبی رکھتا ہے کوئی کسی کے نام کی قسم کھاتا ہے۔ غرض جو کچھ ہندو اپنے بتوں سے کرتے ہیں وہ سب یہ جھوٹے مسلمان اولیا انبیا سے کر گزرتے ہیں۔ سچ شرک میں ہیں۔ اب اپنے جھوٹ مسلمان سچ مشرک ہونے کی خبریں کہیے۔

۲۰۳ نارِ سقر میں روشنی سوچھی کیا اندھیر مچاتے یہ ہیں تکمیل ۷۲: گنگوہی صاحب تو نارِ جہنم میں روشنی بتاتے ہیں لیکن انس و ابو ہریرہ رضی

اللہ تعالیٰ عنہما کی صحیح حدیثوں میں ہے کہ نارِ جہنم سوداء مظلمة جہنم کی آگ کالی اندھیری ہے لا یضئى لہبها اس کی لپٹ میں روشنی نہیں کاللیل المظلم جیسے اندھیری رات ان حدیثوں کا بیان فتاویٰ رضویہ جلد اول صفحہ ۵۵۰ میں دیکھیے اقول اور رب عزوجل فرماتا ہے ومن لم يجعل اللہ له نور فما له من نور جس کے لیے اللہ نے نور نہ رکھا اسے اصلاً روشنی نہ ملے گی اندھیری اور روشنی دینے والی آگ جلانا تو دونوں میں یکساں ہے مگر اول عذاب محض ہے اور دوم میں روشنی نعمت اگر جہنم میں روشنی ہو تو کافر کے لیے آخرت میں نعمت کا حصہ ہو۔ اور اللہ عزوجل فرماتا ہے: وما له فی الآخرة من خلاق آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔

۲۰۵ اُف بے باکی شاہ سے اپنے روٹی تک پکواتے یہ ہیں تکمیل ۷۳۔ یہ خواب تو سن چکے وہیں اس کے حاشیہ پر گنگوہی صاحب سے اسکی یہ تعبیر نقل کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ حاجی صاحب کے جملہ متوسلین بلا توسط ہوں یا بتوسط سوءِ خاتمہ سے محفوظ اور ہمیشہ اتباع شریعت سے آراستہ رہیں گے۔

اقول اولاً تعبیر کو خواب سے اتنا ہی علاقہ ہے جتنا گنگوہی صاحب کو ایمان سے مگر یہ کھل گیا کہ یہ خواب گنگوہی صاحب ہی کا خیال ہے ثانیاً ذرا یہ تو پوچھیے کہ آپ کے قرآن تفویض الایمان کے تو وہ احکام کہ جس کا نام محمد ہے اس کو کچھ اختیار نہیں وہ اپنی بیٹی تک کے کام نہیں آسکتے وہ حاجی جی کے تمام مریدوں کے لیے جنت کا وعدہ کس طرح کر رہے ہیں۔ غرض اللہ کی ساری سلطنت تمہاری چار دیواری کے لیے ہے اس میں سب کچھ ٹھیک اس کے باہر سب کچھ شرک و سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

۲۰۶ ہولی دوالی کا کھانا جائز ہے کر کے کھاتے یہ ہیں شربت و آبِ سمیلِ محرم صاف حرام کراتے یہ ہیں

تکمیل ۷۴۔ اقول اس میں رافضیوں کا تشبہ گڑھا حالانکہ محض جھوٹ ہے جو فعل اہل سنت و دیگران میں مشترک ہو ہرگز زیر تشبہ نہیں آسکتا مگر ہولی دوالی کی پوریاں کھیلیں کھلونے لینے کھانے میں ہندوؤں کا تشبہ نہ ہو اس لیے کہ یہاں محبوبان خدا کا نام نہ تھا جس سے آگ لگے غرض

نے فروعت چوں مسلمان نے اصول شرم باوت از خدا و از رسول جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

بارہ اقوال خاصہ جناب نانوتوی صاحب

۲۰۷ شہ کے پچھلے نبی ہونے کو فضل سے خالی گاتے یہ ہیں
تا جیسے ایسے ویسوں کے اوصاف اتنا اس کو گراتے یہ ہیں
۲۱۳ حق پہ فضول اور بے ربطی کی لم قرآن پہ لگاتے یہ ہیں
مدح جو اس کو سمجھے صحابہ نا فہم ان کو بتاتے یہ ہیں
اب سے ان تک امت بھر پر جاہل کا منہ آتے یہ ہیں
ایک صحابہ کیا کہ نبی پر طعن یہی برساتے یہ ہیں

تکمیل ۷۵۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب میں آخری نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و صحابہ کرام و مفسرین و اولیا و علمائے عظام سب سے لیکر آج تک خاتم النبیین کے یہی معنی بتائے سمجھائے مانے جارہے ہیں تو قطعاً یہی مراد آیت کریمہ ہیں اس مراد پر جو ایراد ہوں گے وہ یقیناً اللہ عز و جل و قرآن اکرم پر ہوں گے یہ معنی اور ان کا اعلیٰ فضائل علیہ و مدائح جلیہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہونا ضروریات دین سے ہے تو ان میں فضیلت سے انکار قطعاً ضروریات دین کا انکار اور سخت شدید تو ہیں و تنقیص شان اقدس حضور پر نور سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے نانوتوی صاحب نے اولاً اسے خیال عوام بتایا یعنی

یہ معنی جاہلوں کا خیال ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آج تک کے تمام مسلمانوں کو جاہل ٹھہرایا کہیے یہ کفر ہے یا نہیں ہائیا صفحہ ۳۴ پر کہا بوجہ کم التفاتی بڑوں کا فہم مضمون تک نہ پہنچا اور طفل نادان (یعنی نانوتوی صاحب) نے ٹھکانے کی بات کہہ دی گاہ باشد کہ کودک نادان بغلط بردف زندگی تیرے:- دیکھو صاف اقرار ہے کہ اس معنی متواتر و مفہوم جملہ مسلمین کو خیال جہال بتا کر جو معنی نانوتوی صاحب نے گڑھے وہ خود ان کے ایجاد ہیں اکابر کا فہم ان تک نہ پہنچا۔

اقول۔ اور اس کا عذر کم التفاتی گڑھا یعنی صحابہ کرام سے آج تک جملہ اکابر نے عقیدہ ضروریہ دینی ایمانی کی طرف کم التفاتی کی جس کے سبب اس کی سمجھ میں غلطی کھائی اور تیرہویں صدی کی پچھلی چھٹن کے ایک کودک نادان بیوقوف لونڈے نے تیر مار لیا کہیے یہ دوسرا کفر ہے یا نہیں ثالثاً یہ جاہل اور نا فہم اور ایسے عظیم عقیدہ ایمانیہ کی طرف کم التفات کے بھاری خطاب صحابہ کرام و جمیع امت ہی کو نہیں خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ہوئے کہ حضور نے بھی یہی معنی سمجھے یہی بتائے اقول نانوتوی چیلے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سے یہ نانوتوی تشنیعیں اٹھانا چاہتے ہیں تو کچھ دشوار بات نہیں۔ ایک حدیث صحیح اگرچہ آحاد ہی سے ثبوت دے دیں کہ آیت کے یہ معنی جو کودک نادان نے گڑھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہیں فرمائے اور جب نہیں بتا سکتے اور یقیناً نہیں بتا سکتے تو اقرار کریں کہ نانوتوی صاحب نے قرآن کریم کی تفسیر جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و صحابہ و تابعین و جملہ امت سے متواتر ہے مردود و باطل ٹھرائی اور تفسیر بالرائے کی اور نہ تمام امت بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جاہل و نا فہم اور ضروریات دین کی طرف کم التفات بتایا۔ گنتے جاؤ! یہ کتنے کفر ہوئے رابعاً خامساً سادساً اقول جو معنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و صحابہ و امت نے بتائے سمجھے اور یقیناً حضور کی مدح جانے یہاں ان کے مراد ہونے پر اللہ عز و جل کی جانب زیادہ گوئی کا وہم رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نقصان قدر کا احتمال قرآن عظیم پر بے ربطی کا الزام قائم کیا اور وہ یقیناً مراد و مقام مدح میں مذکور ہیں تو اللہ و رسول و قرآن عظیم پر سب الزام ثابت کر دیے تین کفر یہ ہوئے یا نہیں؟ سابقاً قول اول تو یہی کہا تھا کہ اس میں بالذات کچھ فضیلت نہیں بالذات کی قید محض دھوکے کو تھی اس کے متصل ہی اگلے دیا پھر مقام مدح میں فرمانا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا مقام مدح میں وہی فضیلت مذکور ہوتی ہے کہ بالذات ہونا تو تو ہی دھرم میں اگلے تمام انبیا کی نبوت بالعرض ہے کسی کی بالذات نہیں پھر قرآن عظیم نے جا بجا نبوت سے ان کی کیوں مدح فرمائی۔ یہ عیاری کا دھوکا تو ان پر ایسا اُلٹے گا کہ ہزاروں کفر ثابت کر کے بھی پیچھا نہ چھوڑے گا اس سے قطع نظر کیجیے جب اس کا مقام مدح میں ہونا ضروریات دین سے ہے اور نانوتوی دھرم میں فضیلت بالذات نہ ہونے کے باعث یہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا تو قطعاً ظاہر ہوا کہ یہ ارشاد الہی غلط مانا یہ کفر ہوا یا نہیں۔ ثامناً قول آگے چل کر بالذات کا گھونگھٹ اٹھا دیا صاف کھیل کھیلے کہ بالذات بالعرض فضیلت ہونا درکنار اس کو فضائل میں کچھ دخل نہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے ایسے ویسوں کے احوال یہ کتنا بھاری کفر ہے تلک عشرۃ کاملۃ اس ایک ہی فقرے میں جناب نانوتوی صاحب کے دس کفر ہوئے اور وہ بھی اجمالاً ورنہ انہیں کی تفصیل انکے ہزاروں کفر ثابت کرے۔

۲۱۳. منکر ختم کو پھر کافر بھی دھوکے کو لکھ جاتے یہ ہیں
دھوکا کھل گیا چند ورق پر پھر وہی پلٹا کھاتے یہ ہیں
شہ کے بعد نبوت تازہ پاک خلل سے بتاتے یہ ہیں
آپ ہی کافر آپ ہی مکفر اپنی آپ ہی ڈھاتے یہ ہیں

تکمیل ۶۔ یہ تو سن چکے کہ نانوتوی صاحب نے صفحہ ۳۳ پر ختم زمانی و ذاتی سب کا انکار کر دیا اور صفحہ ۱۱ پر ختم زمانی کی نسبت خود کہا تھا اس کا منکر بھی کافر ہوگا تو اپنے منہ آپ ہی کافر ہوئے یا نہیں مسلمانوں نے اس سے بڑھ کر نانوتوی صاحب کو اور کیا کہا

ہے جس پر چیلوں نے غل مچا رکھا ہے شاید یہ خیال ہو کہ مسلمانوں نے تو انکو یقیناً کافر کہہ دیا اور انہوں نے بطور شک کہا کافر ہوگا یہ غلط ہے بھلا کیا وہ منکر ختم نبوت کے کفر میں شک کر کے اپنی فہرست میں ایک اور کفر بڑھاتے نہیں بلکہ وہ صیغہ مستقبل بولے ہیں یعنی ابھی نہیں بلکہ اوراق بعد کافر ہوگا دیکھئے ان کی پیش گوئی کیسی سچی ہوئی اگرچہ شریعت اب بھی یہی فرمائے گی کہ چوبیس برس بعد کفر کا قصد کرے وہ ابھی کافر ہو گیا والعیاذ باللہ تعالیٰ

۲۱۶ اور خداؤں کا وہ خدا ہو رتبہ اس میں بڑھاتے یہ ہیں

مشرک کو اثبات بتاں کی یہ برہان پڑھاتے یہ ہیں

تکمیل ۷۔ نانوتوی صاحب نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا چھ خاتم النبیین اور ماننے کے لیے مسلمانوں کو یوں بہلایا بہکایا کہ خالی بادشاہ ہونے میں وہ عزت و عظمت نہیں جتنی بادشاہوں کا بادشاہ ہونے میں خود ہی چرچے کہ یہ ذلیل دلیل تو حید کا خاتمہ کر دیگی بت پرست بھی یہی کہیں گے کہ تم تو اسے نرا خدا کہتے ہو اور وہ اور بہت سے خدا مانکر ان سب کا اسے خدا مانتے ہیں تو وہی خدا کا مرتبہ بڑھاتے ہیں اس چاک کے سلانے کو کتاب چھپ جانے کے بعد دو ورق ترک کے بڑھائے اور اس میں یہ حرکت مذہبی دکھائی صفحہ ۱۳ ایک خدائی دوسرے امکان خاص ان دونوں میں فرق بالذات و بالعرض نہیں ہوتا سوا ان دو کے اور اوصاف دونوں قسموں کی طرف منقسم۔ کسی وصف کے ساتھ اگر قید بالذات یا بالعرض لگالیں اور اس وصف مع القید کو دیکھیں تو دوسری قسم کی گنجائش نہ رہے گی سوا اور مفہومات تو ان دونوں قیدوں سے معڑی ہیں اور خدائی کا مفاد موجودیت بالذات اور امکان کا موجودیت بالعرض اقول یہ بت پرستی کا رد نہ ہوا بلکہ اور اس پر رجسٹری ہوگئی بت پرست بھی اور خداؤں کو واجب الوجود نہیں مانتے کہ موجود بالذات و بالعرض کا قصہ پیش ہو معبود مانتے ہیں اور معبود اس موجودیت بالذات و موجودیت بالعرض کے سوا تیسرا مفہوم

ہے اور آپ تصریح کر چکے کہ اور مفہوم دونوں قسم کے ہوتے ہیں کہیں بالذات کہیں بالعرض تو معبود بھی دونوں قسم کے ہوئے خدا معبود بالذات اور اصنام معبود بالعرض تو وہ جو آپ نے چھ ۶ خاتم النبیین میں کہا چھ خدا میں بھی ثابت ہوا اور چھپن کر ڈ خدا میں اور بڑھ کر ثابت ہوا جتنے خدا بڑھیں گے اتنا ہی اللہ کا مرتبہ بڑھے گا کہ اتنے کثیر خداؤں کا خدا ہے غرض وہ جس سے آپ بھاگے تھے کہ اور چھ ہونے میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو یہ افزائش ہے تو اور چھ خدا تسلیم کرنے میں اسی طور خدا کی خدائی کو افزائش ہوگی صفحہ ۳ یقیناً آپ کے گلے کا گل ہو گیا و ذالک جزاؤ الظلمین اور اس پر یہ جاہلانا احمقانہ ریز کہ یہ شبہ انہیں کو ہو جو آپ کی نبوت کو خدائی کے برابر سمجھتے ہیں یعنی اس کے تعدد سے اس کا تعدد اور اس کی وحدت سے اس کی وحدت پر ایمان لانے کو تیار ہوتے ہیں محض جنون ہے نقض کے لیے مقدمات دلیل دوسری جگہ جاری ہونا کافی ہے مساوات کی کیا ضرورت۔

۲۱۷ خلق سے اسکا تناسب گا کر اربعہ میں اسے لاتے یہ ہیں ہم کو غلام سے جو ہے وہ نسبت حق کو ہم سے بتاتے یہ ہیں یہ ذات طرفین و وسط ہے یوں تثلیث مناتے یہ ہیں تکمیل ۷۸۔ اقول آیہ کریمہ میں تو یہ ارشاد ہے کہ تم میری مخلوق کو میرا شریک کیسے کرتے ہو اپنے ہی میں دیکھو کہ تمہارے غلام تمہاری دولت میں تمہارے برابر کے شریک نہیں حالانکہ تمہیں ان پر صرف ملک مجازی ہے اور تم ان کے خالق نہیں تو میری مخلوق جس کا میں خالق اور حقیقی مالک ہوں کس طرح میری شریک ہو سکتی ہے اسے یہ بتالیا کہ جو نسبت اللہ کو مخلوق سے ہے اللہ اسے اس نسبت سے تشبیہ دیتا ہے جو مخلوق کو مخلوق سے ہے یعنی یہ فرماتا ہے کہ اللہ کو تم سے ایسی نسبت ہے جیسی نسبت تم کو اپنے غلاموں سے ہے تعالیٰ اللہ عما یقول الظلمون علواً کبیراً یہ اربعہ متناسبہ ہوا اربعہ چار چیزیں ہوتی ہیں ان میں اول کو جو نسبت دوم سے ہے ایسی ہی نسبت

سوم کو چہارم سے ہوتی ہے جیسے ۲-۲-۶-۱۲ دو چار کا نصف ہے اسی طرح چھ بارہ کا اور کبھی تین ہی چیزیں ہوتی ہیں اول کو جو نسبت دوم سے ویسی ہی دوم کو سوم سے جیسے ۲-۳-۸ دو چار کا نصف ہے یوں ہی چار آٹھ کا۔ ایسی نسبت کو نسبت ذات طرفین و وسط کہتے ہیں یعنی دو کناروں اور ایک متوسط والی جیسے صورت مذکورہ میں دو اور آٹھ دونوں کنارے ہیں اور چار متوسط کہ اسی کی نسبت دونوں طرف لے گئی۔ نانوتوی صاحب نے اللہ عزوجل کو اسی نسبت میں رکھا ہے اللہ کو جو نسبت ہم سے ہے ویسی ہی نسبت ہم کو غلاموں سے ہے تو اللہ اور غلام دونوں کنارے ہوئے اور ہم متوسط اور تینوں باہم متناسب تو یہ خاصی تثلیث ہوئی۔

بارہ اقول خاصہ جناب تھانوی صاحب

۲۱۹ شہ ساہر کس وناکس جانے غیب یہ عیب دکھاتے یہ ہیں
تا علم حضور میں بچے پگلے کل چوپائے بھڑاتے یہ ہیں
۲۲۳ ان میں نبی میں فرق بتاؤ کس لعنت کی گاتے یہ ہیں
تکمیل ۷۹۔ مسلمانو! اللہ انصاف ایک عام فہم بات جسے ہر ناخواندہ بھی سمجھ لے بارہا چھاپ چھاپ کر ان سے چاہی گئی اور اس پر نہ آئے اول تو ہر مسلمان کے دل میں اسلام رکھتا ہوا اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت ایسی شدید گالی سکر کسی طرح اس کے سخت توہین ہونے میں تامل کر ہی نہیں سکتا پھر بار بار ان سے کہا جا چکا کہ اگر تمہارے نزدیک اس میں کوئی توہین نہیں تو یہی کلمات جیسے ٹھنڈے جی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں لکھے چھاپے شائع کیے اور اب تک شائع کر رہے ہو یو ہیں بے پھیر پھار صاف صاف اپنے بڑوں اسمعیل دہلوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی (اور دیگر دیوبندی اشرف علی تھانوی) کی نسبت نام بنام لکھ کر اخباروں و اشتہاروں رسالوں میں شائع کرو کہ ان کی ذات پر عالم کا حکم کیا جانا اگر بقول وہابیہ و دیوبندیہ صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس سے مراد بعض علم

ہے یا کل اگر بعض علوم مراد ہیں تو اس میں ان کی کیا تخصیص ہے ایسا علم تو ہر بھنگی چمار بلکہ ہر اٹو گدھے ہر کتے سؤر کو حاصل ہے کیوں کہ ہر ایک کو کسی نہ کسی بات کا علم ہوتا ہے اگرچہ اسی قدر کہ یہ چیز اس کے کھانے کی ہے یا نہیں تو ان میں اور اٹو گدھے میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے۔ اور اگر تمام علوم مراد ہیں اس طرح کہ ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے۔ ”سچے ہیں کہ اس میں تو ہیں نہیں تو ان ملتوں کی نسبت مضمون مذکور کیوں نہیں چھاپتے مگر نہیں وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی شان ارفع ان کے یہاں ایسی گئی گزری ہے جسے یوں کہنا کچھ تو ہیں نہیں ان کے ملتوں کی شان میں اس سے ہزارواں حصہ بھی سخت تو ہیں ہے۔ مسلمانو! کیا آپ ان حضرات کو اس امتحان پر آمادہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کلمات تو ہیں نہیں یہاں تک کہ تمام جہاں سے جن کی شان ارفع و اعلیٰ ہے ان کے لیے تم نے استعمال کیے تو کسی بادشاہ یا حاکم کو ان سے کیا نسبت اس کے لیے بدرجہ اولیٰ اصلاً اصلاً تو ہیں کا احتمال بھی نہ ہوگا اب کیا آپ کسی بادشاہ یا اس کے ویرائے یا کمنٹر کلکٹر ہی کی نسبت نام لیکر چھاپ دیں گے کہ ”اسے بادشاہ و حاکم کہنا اگر بقول رعایا صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس سے مراد بعض افراد پر حکومت ہے یا کل پر اگر بعض مراد ہے تو آپ اس کی کیا تخصیص ہے ایسی حکومت تو زید و عمرو ہر بھنگی چمار ہر مزدور ہر قلاش کو حاصل ہے کیوں کہ ہر شخص اپنے گھر کا بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ و ویرائے اور مزدور و محتاج میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے اور اگر تمام افراد عالم پر حکومت مراد ہے اس طرح کہ ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے۔“ چھاپیے تو آپ کے سب جھوٹے عذر حیلے خود ہی مٹ کر آپ کی آنکھیں کھول دیں گے کہ ہاں تو ہیں ہے اور اشد اجنبی تو ہیں واللہ لا یھدی القوم الظلمین۔

۲۲۳ تھک کر اس بدگالی کو اک علمی بحث بناتے یہ ہیں

تکمیل ۸۰۔ تھانوی صاحب نے سولہ ۱۶ برس ضریں کھا کر اذنا کی لعنت ملامت

چاری لگانے ابھارنے سے عاجز آ کر ایک مبسوط ضخیم کتاب پونے دو ورق کی لکھی جس کا یہ چھوٹا سا نام بسط البنان لكف اللسان عن کاتب حفظ الايمان اس میں بکشاہ پیشانی اپنا کفر قبول کر کے عوام کو دھوکے دینے کے لیے کچھ حرکت مذہبی دکھائی اور پھر عاجز آ کر اپنے کفر کو ایک علمی بحث پر ٹالا کہ اس کی بحث ایک علمی سوال ہے جیسا اہل علم میں ہوا کرتا ہے۔ مسلمانو! اہل علم ایک دوسری کی بات میں علمی تفتیش کیا کرتے ہیں جس سے ان کی شان علم پر بھی کوئی حرف نہیں آتا نہ کہ ایمان سارا کا سارا نکل بیٹھیں اور اس پر تکفیر کو کہیں معمولی علمی سوال ہے یعنی مثلاً مصنف نے کہا کتاب الطہارات اس پر سوال ہوا کہ یہ طہارت کی جمع ہے طہارت مصدر ہے مصدر کی جمع نہیں لاتے جواب ہوا کہ جمع باعتبار انواع ہے ایسی بحثیں علما میں ہمیشہ ہوتی ہیں اسی قبیل سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منہ بھر کر کھلی شدید گالی دینا ہے اور اس پر یہ سوال بھی ویسی ہی ایک علمی بحث ہے جو علما میں ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ بادشاہ و ویرائے والی مثال پر عمل کرو تو دیکھ لو گے کیسی اہل علم کی سنت مستمرہ ہے جیل خانہ یا پاگل خانہ دونوں گھروں سے ایک دیکھ کر رہو گے اس وقت ایک علمی سوال کہنے کا مزہ کھلے گا اللہ و رسول کی حمایت کو تو یہاں کوئی حکومت تیار نہیں ان کے بارے میں جو چاہو کہہ لو و سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔

۲۲۵ س کو کا فر لکھ گئے جس کو بھینٹ ایمان چڑھاتے یہ ہیں

۲۲۶ لیکن جب تک نام نہ جانا جان کے جان چراتے یہ ہیں

تکمیل ۸۱۔ گنگوہی صاحب کو خبر نہ تھی کہ یہ اقوال امام الطائفة اسمعیل کے ہیں وہ اس کے رسالہ ایضاح الحق سے ناواقف تھے فتاویٰ گنگوہی حصہ دو صفحہ ۱۸۱ ایضاح الحق بندہ کو یاد نہیں کیا مضمون ہے کس کی تالیف لہذا حق بات ظاہر کرنے سے کوئی مانع نہ تھا اور صاف صاف انھوں نے اور ان کے اذنا ب تھانوی وغیرہ نے حکم کفر و الحاد جڑ دیا وہ فتوے یہ ہے کیا ارشاد ہے علمائے دین کا اس شخص کے بارے میں جو کہے کہ اللہ

تعالیٰ کو زمان و مکان سے پاک کہنا اور اس کا دیدار بے جہت حق جاننا بدعت ہے اور یہ قول کیسا ہے بیوقوف اور الجواب یہ شخص عقائد اہل سنت سے جاہل اور بے بہرہ اور بے مقولہ کفر ہے۔

فقط واللہ عالم
بندہ رشید احمد گنگوہی

۱۳۰۱ھ

الجواب صحیح اشرفی تھانوی عفی عنہ حق تعالیٰ کو زمان و مکان سے منزہ جاننا عقیدہ اہل ایمان کا ہے اس کا انکار الحاد و زندقہ ہے اور دیدار حق تعالیٰ آخرت میں بے کیف اور بے جہت ہوگا مخالف اس عقیدہ کا بددین و ملحد ہے کتبہ عزیز الرحمن عفی عنہ و توکل علی العزیز الرحمن مفتی مدرسہ دیوبند۔ الجواب صحیح بہندہ محمود عفی عنہ مدرسہ اول مدرسہ دیوبند۔ ”ہرگز اہل سنت سے نہیں حررہ المسکین عبدالحق۔ الجواب صواب محمود حسن مدرس دوم مدرسہ شاہی مردآباد۔ ایسے عقیدہ کو بدعت کہنے والا دین سے ناواقف ہے ابوالوفاء ثناء اللہ محمود ۱۳۱۵ھ اب کہ معلوم ہو گیا کہ ایضاح الحق اسمعیل کی کتاب ہے اور یہ اقوال خود امام الطائفہ کے ہیں اب اسمعیل کا نام لیکر تو ان لوگوں سے یہی احکام جو لکھ چکے ہیں یعنی اسمعیل دہلوی دین سے ناواقف اہل سنت سے خارج بددین ملحد زندیق کافر لکھو تو لو حاشا ہرگز ہرگز نہ لکھیں گے کہ وہ تو خدا و اسمعیل کے مقابلہ میں اسمعیل کے بندے ہیں خدا کے نہیں وسیع علم الذین ظلموا الایۃ۔

۲۲۷ وہ نہجتم خود کفر اپنا مانتے اور چھپواتے یہ ہیں
قول ہے کفر اور قائل کافر لیکن نام بچاتے یہ ہیں
قائل ٹھنڈے جی سے کافر نام لیے گرماتے یہ ہیں

تعمیل ۸۲۔ اقول مسلمانو! نمبر ۲۱۹ تا ۲۲۳ میں آپ تھانوی رسالہ کی عبارت دیکھ چکے جس میں صاف صاف کھلے لفظوں میں علم غیب کی دو قسمیں کیں ایک محیط کل علوم

جس سے ایک فرد بھی خارج نہ رہے اور اسے عقلاً و نقلاً باطل مانا دوسرا علم بعض۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ثابت مان سکتا ہے کہ اول کو عقل و نقل سے باطل کہہ چکا ہے اب یہی علم غیب کہ حضور کے لیے ہے اسی کو کہتا ہے کہ اس میں حضور کی تخصیص کیا ہے ایسا تو ہر بچے پاگل چوپائے کو ہوتا ہے نبی میں اور ان میں وجہ فرق کیا ہے۔ مسلمانو! یہ حرف بحرف اس کے لفظوں کا کھلا مفاد ہے اسی کی نسبت تھانوی صاحب نے ایک خانگی سوال گڑھا اور اس کا جواب دیا اور صاف صاف بجز اللہ تعالیٰ اپنے کفر کا اقرار کر لیا بلکہ جتنا علمائے حریمین کرام نے فرمایا تھا اس پر بھی اپنی دو تکفیروں کا اضافہ کیا وہ تھانوی خانگی سوال و جواب بسط البنان میں یہ ہیں بخدمت مولوی اشرفی صاحب۔ حسام الحرمین میں ہے کہ آپ نے حفظ الایمان میں اسکی تصریح کی کہ غیب کی باتوں کا علم جیسا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے ایسا ہر بچے ہر پاگل ہر جانور ہر چوپائے کو ہے آیا آپ نے ایسی تصریح کی۔ اگر تصریح نہیں تو بطریق لزوم بھی یہ مضمون آپ کی کسی عبارت سے نکل سکتا ہے۔ ایسے شخص کو جو یہ اعتقاد رکھے یا صراحتہ یا اشارۃ کہے آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر بیوقوف اور الجواب میں نے یہ خبیث مضمون کسی کتاب میں نہ لکھا لکھنا درکنار میرے قلب میں کبھی اس کا خطرہ نہ گزرا۔ میری کسی عبارت سے یہ مضمون لازم بھی نہیں آتا۔ جو شخص ایسا اعتقاد یا بلا اعتقاد صراحتہ یا اشارۃ کہے میں اس کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں کہ وہ تکذیب کرتا ہے نصوص قطعہ کی اور تنقیص کرتا ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مسلمانو! اللہ انصاف کیسے کھلے مضمون سے کانوں پر ہاتھ دھرے ہیں لکھ گئے اور کبھی دل میں خطرہ تک نہ گزرا۔ صاف تصریح کی اور کسی عبارت سے لازم بھی نہیں آتا۔ چور کبھی چوری کا اقرار نہیں کرتا۔ خفص الایمان چھپی نہیں چھپی ہوئی موجود و شائع ہے یہ تو ہر انصاف کی آنکھ دیکھ لگی کہ جس سے یہ صاف مکرنا ہے وہ بتصریح صریح خفص الایمان میں موجود ہے دن کو رات کہنے سے رات ہو جانا ناممکن یہ جو لا

ہے کا تیر نہیں کہ خون پوچھتا جائے اور خدا جھوٹ کرے اب حکم دیکھنا ہے جو خود اس ملعون عبارت پر دیا حسام الحرمین میں علمائے کرام حرمین طہیین نے تو اتنا ہی فرمایا تھا کہ اس کا قائل کافر مرتد ہے آپ نے دو تکفیریں اور اضافہ کیں کہ جو اشارۃ ایسا کہے وہ بھی کافر۔ جو بلا اعتقاد بھی ایسا کہے وہ بھی کافر۔ مسلمانوں سے بڑھ کر اور وضوح حق کیا ہوگا کہ خود ان کے منہ بولا چھوڑا خود ان سے قبلوا چھوڑا شہد و اعلیٰ انفسہم انہم کانوا کفیرین والحمد للہ رب العلمین و خسرو ہنا لک المبتلون و قیل بعدا للقوم الظلمین۔

(۲۲۸) وار جو ختم نبوت پر تھے اب وہ بیخ اوگاتے یہ ہیں
یعنی اپنے نبی چننے کو تسکین بخش بتاتے یہ ہیں
(۲۲۹) اپنے نام پہ استقلالاً صل علی بھنوتے یہ ہیں
بہکی زبان اور دن بھر بہکی اف اف کیا بہکاتے یہ ہیں
انکی شائھی نبی کی ذم تھی یوں یہ عذر مناتے یہ ہیں
ان کو برا کہنا تو یہ حیلہ سنتے یا جل جاتے یہ ہیں

مجمیل ۸۳۔ رسالہ مذکورہ الامداد میں اس مرید کی مفصل عبارت یہ ہے۔ خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور (تھانوی) کا نام لیتا ہوں اتنے میں خیال ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی دوبارہ پڑھتا ہوں بیساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی کل جاتا ہے مجھ کو علم ہے کہ اس طرح درست نہیں لیکن بے اختیار زبان سے یہی نکلتا ہے دو تین بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور (یعنی تھانوی) کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں اتنے میں میری یہ حالت ہوگئی کہ میں بوجہ رقت زمین پر گر گیا اور نہایت زور کیا تھا چیخ ماری اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ اندر کوئی طاقت نہ ہے اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا لیکن بے حسی اور اثرنا طاقتی بدستور تھا لیکن خواب و بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا بیداری میں کلمہ شریف

کی غلطی پر خیال آیا تو ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے پھر ایسی غلطی نہ ہو جائے باس خیال بیٹھ گیا پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی حالانکہ اب بیدار ہوں خواب نہیں لیکن بے اختیار ہوں مجبور ہوں زبان اپنے قابو میں نہیں اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا دوسرے روز بیداری میں رقت رہی خوب رویا اور بھی بہت سے وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں کہاں تک عرض کروں تھانوی صاحب نے اس کا وہ جواب لکھا کہ اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ متبع سنت ہے۔ ۲۲ شوال ۳۵ھ۔ مسلمانو! یہ ظلم عظیم دیکھا خواب کا عذر بیداری کے عذر نے خواب و خیال کر دیا زبان بہکنا اتنا قیہ امر ایک آدھ بار ہوتا ہے نہ کہ بار بار نہ کہ جان کر کہ غلط کہہ رہا ہے اور صحیح کا قصد کرے اور پھر وہی کلمہ کفر صریح بکے اور برابر بکتا رہے اور ایک دو منٹ بھی نہیں دن بھر اسی ملعون خیال میں کٹے۔ پاگل تو نہ تھا کہ عقل بجاتھی خود اپنی غلطی پر آگاہ تھا اور اس کے ازالہ کا برابر قصد کرتا رہتا بتاتا ہے شراب پیئے ہوئے نہ تھا کہ زبان قابو میں نہ تھی اور شراب کا نشہ جب تک عقل زائل نہ کر دے زبان کو قابو سے بالکل باہر نہیں کر سکتا اور باہر ہونا ایسا کہ دن بھر بہکی دن بھر قلب و زبان میں جنگ رہی دل صحیح چاہتا ہے اور زبان بے اس کے اختیار کے آپ سے آپ کفر بول رہی ہے مسلمانو! کبھی اس کی نظیر کہیں سنی ہے مسلمانو! اللہ انصاف اللہ انصاف اس نبی چننے اور اشرف علی نبی پر درود بھاننے کی جگہ اگر کوئی اشرف علی کو دن بھر مغلطہ فحش گالیاں نام لے لے کر دیتا اور کہتا کہ میں جانتا تھا کہ یہ بیجا ہے، میں زبان کو اس سے پھیرنا چاہتا تھا مگر بے اختیار زبان سے اشرف علی اور اس کے گھر بھر کو فحش گالیاں نکلتی تھیں ایمان سے کہنا کیا اشرف علی اس کا یہ عذر سن لیتے حاشا ہرگز نہیں ہرگز نہیں غصہ و غضب میں جامہ سے باہر ہو جاتے اور بس چلتا تو کیا کچھ

کرتے مگر یہاں جو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دن بھر گالیاں پھننائیں وہی تقویت الایمان کے لفظ یاد کرو کہ بڑے سے بڑے کا حق لیکر ذلیل سے ذلیل کو دیدیا بادشاہ کا تاج ایک پتھر کے سر پر۔ یہاں تھانوی صاحب کو تسکین سوجھتی ہے اسے شاباشی دی جاتی ہے اس لیے کہ یہاں گالیاں ان کے دشمن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑ رہی ہیں ان کی نبوت کی تسبیح بھان کر ان کی..... ترکی جارہی ہے الا لعنة الله على الظلمين ائمة دین نے تو ایسی جگہ زبان بھکنے کا عذر مانا ہی نہیں اور پھر بھکے بھی تو دو ایک حروف نہ کہ گھنٹوں پہروں بھکتی ہی رہنا جو ہرگز ہرگز مقبول درکنار معقول ہی نہیں جامع الفصولین میں ہے ابتلی بمصیبات متنوعة فقال اخذت مالی وولدی واخذت کذا وکذا فماذا تفعل ایضاً وماذا بقی لم تفعله وما اشبهه من الا لفاظ کفر کذا حکمی عن عبد الکریم فقیل له ارأیت لو ان المریض قاله وجرى علی لسانه بلا قصد لشدة مرضه قال الحرف الواحد یجرى ونحوه لایجرى علی اللسان بلا قصد اشار الی انه یحکم بکفره ولا یصدق یعنی ایک شخص طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہوا بولا کہ تو نے میرا مال اور میرا بچہ اور یہ یہ لے لیا اب اور کیا کرے گا اب کرنے کو رہ گیا ہے اور اسی قسم کے الفاظ کہے کا فر ہو گیا یہ حکم امام عبد الکریم سے منقول ہوا ان سے کہا گیا دیکھئے تو اگر مریض کہے اور سختی مرض کے باعث یہ کلمہ بلا قصد اس کی زبان سے نکلے۔ فرمایا دو ایک حروف زبان سے بے قصد کبھی نکل جاتے ہیں (نہ کہ اتنی عبارت) اس میں امام نے اشارہ فرمایا کہ اس کے کفر کا حکم دیا جائے گا اور زبان بھکنے کا عذر نہ مانا جائے گا انتہی۔ فتاویٰ امام قاضی خاں میں ہے انما یجرى علی لسانه حرف واحد ونحو ذلک اما مثل هذه الکلمات الطویلة لا تجرى علی لسانه من غیر قصد فلا یصدق یعنی زبان سے ایک آدھ حرف بے قصد نکل جاتا ہے اتنے الفاظ بلا قصد نہیں نکلتے لہذا یہ

دعویٰ تسلیم نہ ہوگا۔ شفا شریف امام قاضی عیاض صفحہ ۳۳۱ لا یعذر احد فی الکفر بدعوی زلل اللسان کفر میں زبان بھکنے کے دعوے سے کوئی معذور نہ رکھا جائے گا۔ ایضاً عن محمد بن ابی زید لا یعذر احد بدعوی زلل اللسان فی مثل هذا ایسی بات میں زبان بھکنے کے دعوے پر معذور نہ رکھیں گے ایضاً وافتی ابوا الحسن القابسی فیمن شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سکره یقتل لانه یظن انه یعتقد هذا ویفعله فی صحوه یعنی ایک شخص نے نشے کی حالت میں شانِ اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کلمہ گستاخی کہا امام ابوالحسن قابسی نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا کہ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ اس کے دل میں یہی خیانت ہے اور اپنے ہوش میں بھی ایسا بکتا تھا۔ یعنی ہوش کے وقت چھپاتا تھا نشے میں چھپانے کی سمجھ نہ رہی کھل کھیلا دیکھو ائمہ نے زبان بھکنے کا عذر نہ سنا اور یہ بھی تصریح فرمادی کہ بھکے تو دو ایک حرف نہ کہ پہروں بھکنے کی رٹ اور ہر وقت ارادہ دل کے خلاف زبان کی پلٹ۔ گویا زبان خود ایک مستقل حیوان اس کے منہ میں تھی جسے یہ کسی طرف پھیرتا ہے اور وہ سرکشی کر کے دوسری طرف پھرتی ہے پہروں قابو میں نہ آئی۔ کیا کسی نے اس کی نظیر کہیں سنی ہے پاگل ضرور گھنٹوں بکتے ہیں وہ بھی اپنے دل کے ارادے سے نہ کہ زبان کا ارادہ دن بھر دل کے خلاف۔ تھانوی صاحب کو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت عزیز ہوتی اگر حضور کو خاتم النبیین جانتے اگر اپنے آپ کو نبی کہنا کفر مانتے تو جواب یوں دیتے کہ اوشیطان کے مسخرے ابلیس تجھ سے کھیلتا ہے تو کفر بک رہا ہے اور دن بھر بک رہا ہے اور جھوٹا ملعون ادعائے بے اختیاری زبان کر رہا ہے ایسی بے اختیاری کبھی دیدنہ شنید۔ اے عدو ایمان تو شہنشاہ تمام عالم و عالمیان کا تاج رفیع مجھ بھنگی پتھر سے بھی ذلیل تر ناپاک کے گندے سر پر رکھتا ہے وہ ناپاک سر جو ان کی غلام کے سگ بارگاہ کی خاک راہ کے غلامان غلام کے جوتی کے بھی قابل نہیں۔ تجھ پر ہزار ترف اور لاکھ اُف۔ مسلمان ہو اور جو رو رکھتا

ہے تو بعد اسلام اس سے نکاح پھر کر۔ تھانوی صاحب مسلمان ہوتے تو یہ جواب دیتے مگر نہیں وہ تو لگن ہیں جاے میں پھولے نہیں سماتے کہ آبا ہماری نبوت جی جا رہی ہے ہمارے نام پر درود بھانی جا رہی ہے محمد عربی کا تاج عظیم چمار کے سر پر رکھا جا رہا ہے لہذا اس کفر بکنے والے کو زبرد کنارتیبہ بالائے طاق اور تسلی دی جا رہی ہے تف تف تف لقد استکبر وافی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا و سيعلم الذین ظلموا الاية اللہ برکتیں دے ہمارے دوست حامی سنت ماحی بدعت حاجی منشی لعل خاں سلمہ کو یہاں کیا خوب مختصر الفاظ ان مرید و پیر کا کچا چٹھا کھولنے کے لیے ان جاہلوں کے فہم کے قابل لکھے ہیں کہ اہل اسلام اپنے قلوب سے فتویٰ لیں کیا کسی کامل الایمان کی زبان سے سوتے جاگتے کسی حال میں کلمہ شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی جگہ کسی دوسرے کا نام نکل سکتا ہے یا ایسا وہم بھی ہو سکتا ہے چہ جائے کہ دوسرے کی محبت اس قدر غالب ہو کہ بار بار کی کوششوں پر بھی زبان سے حضور کا نام نہ نکلے اور اشرف علی ہی کا نام خواب میں کیا بیداری میں نبینا کہہ کر لیتا جائے اور اس روز ایسا ہی کچھ حال رہے اور حضرت کا نام لینے سے مجبور ہو جائے اگر خدا نہ کرے کسی کی ایسی حالت ہوئی ہو تو یہ سخت قہر الہی اور شیطان کا زبردست تسلط تھا اگر اسی حالت میں موت آجاتی تو دنیا سے بے ایمان جاتا و العیاذ باللہ تعالیٰ۔ یہ تو مرید کی حالت تھی مگر پیر اس سے زیادہ خراب حالت میں ہے مرید نے تو اس کو غلطی بھی خیال کیا اور اس کے رفع کرنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ غلطی قلب میں خوب جمی ہوئی اور سرایت کی ہوئی تھی۔ اس لیے وہ مجبور رہا۔ پیر صاحب اس کو غلطی بھی نہیں قرار دیتے۔ اور اس کے رفع و ازالہ کی ہدایت بھی نہیں فرماتے بلکہ اس پر مرید کو پختہ اور مستقل کرنے کے لیے اس حالت بد کا حالت محمودہ ہونا اس طرح مرید کے خاطر گزیر کرتے ہیں کہ اس میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو (یعنی اشرف علی) وہ تہج سنت ہے۔ اس سے اور دوسرے مریدوں کو جسارت دلائی

جاتی ہے اشرف علی کے تہج سنت ہونے کی تسلی اس طرح ہوتی ہے کہ کلمہ اور درود شریف میں اس کا نام لیا جائے اور اس کو نبی کہا جائے اب کون مرید ہے جو پیر کے تہج سنت ہونے کی طرف سے تسلی حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ یہ تعلیم ہے کہ سارے مرید اس طرح کہا کریں۔ اسی لیے اس واقعہ اور جواب کو۔ اپنے یہاں چھاپ کر مشتہر کیا تاکہ اور مرید اس رستہ پر آئیں اور ہمارے گرامی دوست فاضل نوجوان حامی سنن مولینا مولوی محمد عبد العظیم صاحب صدیقی میرٹھی سلمہ نے تو اس مہلکہ تھانویہ کے رد میں مستقل تحریریں شائع کی ہیں۔ فرحم اللہ من عظم قدر المصطفیٰ علیہ افضل الصلاة والثناء قاتل اهل التوہین والجفاء آمین۔

۲۳ ماں کا ادب کافر بھی کرے گا ان کی سنو کیا گاتے یہ ہیں
واقعہ ڈھالیں ماں کا آنا زن کا ذہن لڑاتے یہ ہیں
جن پر لاکھوں مائیں تصدق تعبیر ان کی بناتے یہ ہیں
کیوں ادب صدیقہ کریں کیا دین کا دینا دھراتے یہ ہیں
وہ تو مسلمانوں کی ماں ہیں کب اسلام رکھاتے یہ ہیں

حکیمیل ۸۴۔ اولاً تھانوی صاحب اگر مسلمان ہوتے تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمانوں کی ماں ہیں کوئی بے غیرت سارے غیرت بھنگی چمار بھی ماں کی تعبیر جو رو سے نہ کریگا ہانپا کیا کوئی مسلمان اگر واقعہ میں ام المؤمنین کی زیارت سے مشرف ہو تو اس کا وہم بھی اس طرف جائے گا ہرگز نہیں مگر اس اپنے نبی چپنے کو تسلی بخش بتانے والے نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگہ قائم کیا اور اپنی جو رو کو ام المؤمنین کی جگہ اور صاف یہ نسبت جوڑ کر کہہ دیا کہ وہی قصہ یہاں ہے حالاً اردو محارہ میں قصہ بلا اضافت لغو و مہمل و لالیحی حکایات اور بیجا فتنہ و فساد و چپقلش کے معنی پر مستعمل ہے دو شخصوں میں فضول جھگڑا ہوتے دیکھیں تو کہتے ہیں میاں کیا قصہ ہے۔ ان میں روز یہی قصے رہتے ہیں داستان امیر ہمزہ یا الف لیلہ

پڑھنے کو قصہ خوانی کہیں گے اور قرآن عظیم یا احادیث پڑھنے کو نہ کہیں گے۔ اگرچہ ان میں تذکرہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام و دیگر قصص ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات قدسیہ کو یوں قصہ کہنا کہ وہی قصہ یہاں ہے شاید کفار سے لیا ہو کہ قبر آن کریم کو کہا کرتے اساطیر الاولین اگلوں کے قصے ہیں۔ رابعاً پھر کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال کریمہ سے اپنی کسی حالت کو تشبیہ بھی نہیں دے سکتا کی فلاں امر میں جیسا حال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا ویسا ہی میرا ہے ع چونکہ نسبت خاک رابا عالم پاک۔ نہ یہ کہ تشبیہ سے بھی اونچے اڑ کر عینیت سے تعبیر کہ وہی قصہ یہاں ہے یعنی جو واقعہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و ام المؤمنین کا تھا بحینہ بلا تفاوت تھا نوی و تھا نویہ کا ہے مگر یہ باتیں تو کسی مسلمان سے کہنے کی ہیں تھا نوی صاحب سے کیا شکایت ع ما علی مثله یعد الخطاء۔

ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و ابنہ و حوزہ اجمعین آمین و الحمد للہ رب العلمین۔

ہدیہ تشکر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی حَبِیْبِہِ الْکَرِیْمِ
 الحمد للہ ثم الحمد للہ علی حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کی اہم معرکہ الآراء کتاب ”الاستمداد علی اجیال الازداد“ آپ کے ہاتھوں
 میں ہے۔ حضور تاج الشریعہ مد ظللہ العالی اور حضرت مولانا عبدالمصطفیٰ ردولوی وغیرہما
 کی رہنمائی سے پھر سے وہی نسخہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا جو تاجدار اہلسنت حضور مفتی اعظم
 ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کے دور میں شائع ہوا تھا۔ کتابت و طباعت و پروف ریڈنگ کے
 مراحل سے گزرنا کتنا اہم اور دشوار کام ہے یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اس خاردار وادی میں
 قدم رکھتے ہیں۔ کتابت و طباعت وغیرہ میں کتنی دشواری ہوتی ہے اسے حضور تاج الشریعہ
 کے مرید جناب سلیم جمالی صاحب خوب جان گئے۔ ہم تو انہیں کچھ صلہ نہیں دے سکتے ہاں
 من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ ناشکروں کے زمرے میں نہ ہوں بایں وجہ ہم ان کا
 شکر یہ ادا کرتے ہیں۔ اور بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے
 اہل و عیال کو ان کے مشائخ کرام اور ان کے استاذ حضرت عبدالعلیم شاہ قادری عرف قادری
 صاحب کے صدقے علم و عمل، صحت و عافیت، عزت و آبرو اور دارین کی سعادتوں اور برکتوں
 سے نوازے اور رزق حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور ہمیشہ دین و سنیعت کی
 خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

اراکین مدرسہ قادریہ